


لہاری دیگر مطبوعات



المہند علی المفند  
حضرت مولانا محمد ہارن پوری مدظلہ العالی

# المہند علی المفند

یعنی

# عقائد علماء اہل سنت دیوبند

فخر المجدثین

حضرت مولانا خلیل احمد ہارن پوری قدس سرہ العزیز



المیزان ناشران تاجران کتب

الکیم مارکیٹ اردو بازار، لاہور پاکستان

Ph.: 042-7122981, 7212762

E-mail: al.mezaan@gmail.com

# المُهَنْدُ عَلَى الْمُفَنَّدِ

يعنى

## عقائد علماء اہل سنت دیوبند

فخر المجددین

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری قدس سرہ العزیز

المتوفى ۱۳۴۶ھ

### المیزان ناشران تاجران کتب

الکفریم مارکیٹ آزد و بازار لاهور پاکستان فون: ۲۱۲۷۶۲، ۲۱۲۹۸۱-۷۲۲-۰۳۲

﴿ فہرست عنوانات ﴾  
(المهند علی المفند)

صفحہ نمبر	عنوانات
۶	عرض ناشر
۸	مقدمہ اکابر دارالعلوم کا اجمالی تعارف... از قاضی مظہر حسین صاحب
۱۷	آغاز اصل کتاب تمہید اور باعث تحریر تصنیف
۲۲	سوال ۱، ۲..... شدر حال سے متعلق سوال اور اس کا جواب
۲۹	سوال ۳، ۴..... توسل بالنبی ﷺ والا ولیاء والصالین
۳۰	سوال ۵..... حیات النبی ﷺ
۳۱	سوال ۶..... قبر اطہر پر دعا کرنے کا طریقہ
۳۳	سوال ۷..... رسول اللہ ﷺ پر بکثرت درود شریف بھیجنا
۳۴	سوال ۸، ۹، ۱۰..... ائمہ اربعہ کی تقلید کا حکم
۳۵	سوال ۱۱..... صوفیہ کے اشغال، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ان سے فیوض حاصل کرنا
۳۶	سوال ۱۲..... خاص وہابیوں کے بارے میں حکم
۳۸	سوال ۱۳، ۱۴..... استواء علی العرش کا مطلب
۳۹	سوال ۱۵..... رسول اللہ ﷺ کا سب سے افضل ہونا
۴۰	سوال ۱۶..... رسول اللہ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا
۴۳	سوال ۱۷..... رسول اللہ ﷺ کو اپنا بڑا بھائی سمجھنا (نعوذ باللہ من ذالک)
۴۴	سوال ۱۸..... رسول اللہ ﷺ کو مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا ہونا

# المیزان

عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات - ۰۱۷

سن اشاعت ۲۰۰۵ء

محمد شاہد عادل نے

زاہد بشیر پرنٹرز سے چھپوا کر

المیزان اردو بازار لاہور سے شائع کی۔

صفحہ نمبر	عنوانات
۳۶	سوال ۱۹..... شیطان ملعون کے علم سے متعلق براہین قاطعہ کی ایک عبارت پر شبہ کا جواب
۴۹	سوال ۲۰..... حفظ الایمان کی ایک عبارت پر شبہ کا جواب
۵۲	سوال ۲۱..... آنحضرت ﷺ کی ولادت شریفہ کے ذکر کا محبوب و مستحب ہونا
۵۵	سوال ۲۲..... حضرت گنگوہی قدس سرہ کی ایک عبارت پر شبہ کا جواب
۵۸	سوال ۲۳..... حضرت گنگوہیؒ پر ایک بہتان اور اس کا جواب
۶۲	سوال ۲۴..... حق تعالیٰ شانہ کے کلام میں کذب کا وہم کرنا والا بھی کافر ہے
۶۳	سوال ۲۵..... امکان کذب کا مطلب اور اہل سنت والجماعت کی کتب سے مسئلہ کا حل
۷۱	سوال ۲۶..... قادیانیوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تصدیقات علمائے دیوبند رحمہم اللہ تعالیٰ
۷۲	تصدیق ۱..... شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ
۷۵	تصدیق ۲..... حضرت مولانا میر احمد حسن صاحب امر وہویؒ
۷۶	تصدیق ۳..... حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند
۷۷	تصدیق ۴..... حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
۷۸	تصدیق ۵..... حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوریؒ
۷۸	تصدیق ۶..... حضرت مولانا حکیم نمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دیوبند
۷۹	تصدیق ۷..... حضرت مولانا قدرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد
۷۹	تصدیق ۸..... حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ
۸۰	تصدیق ۹..... حضرت مولانا محمد احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مہتمم مدرسہ دارالعلوم دیوبند

صفحہ نمبر	عنوانات
۸۰	تصدیق ۱۰..... حضرت مولانا غلام رسول صاحب، دارالعلوم دیوبند
۸۱	تصدیق ۱۱..... حضرت مولانا محمد سہول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند
۸۲	تصدیق ۱۲..... حضرت مولانا عبدالصمد صاحب، دارالعلوم دیوبند
۸۳	تصدیق ۱۳..... حضرت مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہوڑی دہلی
۸۳	تصدیق ۱۴..... حضرت مولانا ریاض الدین صاحب مدرسہ عالیہ میرٹھ
۸۳	تصدیق ۱۵..... حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دہلی
۸۵	تصدیق ۱۷، ۱۸..... حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب و حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مدرسہ امینیہ دہلی
۸۵	تصدیق ۱۸..... حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ
۸۶	تصدیق ۱۹..... حضرت مولانا سراج احمد صاحب مدرسہ سردھنہ میرٹھ
۸۷	تصدیق ۲۰..... مولانا قاری محمد اسحاق صاحب مدرسہ اسلامیہ میرٹھ
۸۷	تصدیق ۲۱..... مولانا حکیم محمد مصطفیٰ صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ
۸۷	تصدیق ۲۲..... حضرت مولانا حکیم محمد مسعود احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ
۸۷	تصدیق ۲۳..... حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری
۸۹	تصدیق ۲۴..... حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپوری
۹۱	تصدیق ۲۵..... تصدیقات علمائے کرام مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ
۱۱۲	تصدیق ۲۶..... تصدیقات علمائے کرام قاہرہ و دمشق و ممالک عربیہ

### ﴿ عرض ناشر ﴾

زیر نظر رسالہ جس میں علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں درج کئے گئے ہیں، دراصل یہ ایک جوابی رسالہ ہے جو شیخ الحدیث، زبدۃ العلماء، قدوة الصالحاء حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کیونکہ برصغیر پاک و ہند کے بعض رجعت پسند اور متعصب لوگوں نے علماء اہل السنۃ والجماعت کے خلاف پروپیگنڈہ کی جب مہم شروع کی تو برصغیر پاک و ہند میں انگریزی اقتدار کے مخالف اور اس غاصبانہ اقتدار کے خاتمہ کیلئے جدوجہد کرنے والوں کو ہی سب سے پہلے نشانہ بنایا اور اس جماعت حقہ کے اکابر کی کتب میں عبارات کو قطع و برید کر کے علماء حریمین کی خدمت میں پیش کرنے اور ان سے ان اہل حق کے خلاف فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی۔

مگر حقیقت پسند اور متلاشیان حق خدام الحرمین نے برصغیر کے ان علماء سے اس سلسلہ میں جب استفسار کیا تو حقائق کو طشت از بام کرنے کیلئے حضرت اقدس محدث سہارنپوری نے قرآن و سنت اور آثار صحابہؓ کی روشنی میں حق کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ رسالہ تحریر کیا اور پھر اس جماعت حقہ کے تمام اکابر نے اس کی تائید فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دور اختلاف و انتشار اور زندقہ والحاد کا دور ہے جس کے بارے سید الرسل، اشرف الانبیاء، شفیع المذنبین، خاتم المعصومین علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ ہوں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے اس پر صحابہؓ نے عرض کیا کہ ایسے دور میں نجات کا کیا راستہ ہوگا؟ فرمایا کہ ایسے حالات میں تم پر لازم ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لازم پکڑ لو۔

اور حقیقت یہی ہے اس کتاب میں اسی چیز کا اہتمام کیا گیا ہے، صراط مستقیم پر گامزن علماء حق کے ان افکار کو اسی روشنی میں پیش کیا گیا ہے جس کی بابت حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اوپر ذکر کی جا چکی ہے۔

ہم نے اسی خصوصیت کے پیش نظر اس کتاب کو اس کے شایان شان انداز میں پیش

کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسب روایت جدید انداز (کمپوزنگ) اعلیٰ کاغذ اور بہترین گرد پوش کے ساتھ کتابچہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ امید ہے ذی وقار قارئین اس سے استفادہ کے دوران اگر کہیں کوئی سقم یا غلطی محسوس کریں گے تو اس کی بابت ہمیں مطلع کر کے اس کی اصلاح کا سبب بنیں گے جس کیلئے ہم بھیمیم قلب آپ کے شکر گزار ہوں گے۔

آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں عقیدہ صحیحہ پر استقامت اور تلاش حق کی دعا کے دوران ہمیں بھی ضرور یاد کریں۔

والسلام

کارکنان ادارہ المیزان لاہور

## اکابر دارالعلوم کا اجمالی تعارف

﴿حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب﴾

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفائے کالمین نے گیارہویں صدی ہجری میں اور بارہویں صدی میں امام الحدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان سعادت نشان نے متحدہ ہندوستان میں بتوفیق ایزدی علم و عرفان اور شریعت و طریقت کی جو قدیلیں روشن کیں، انہی انوار ہدایت سے تیرہویں صدی کے اواخر میں حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وارثین کالمین حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم اسلام کو منور فرمایا۔ یہ دونوں بزرگ کمالات شریعت و طریقت کے جامع تھے۔ سرور کائنات محبوب خدا ﷺ کی محبت و اطاعت ان کے قلوب و اجسام پر محیط تھی۔ توحید و سنت کی تبلیغ و اشاعت اور شرک و بدعت کے استیصال و انسداد میں ان حضرات نے اپنی مقدس زندگیاں صرف کر دیں۔ مذہب اہل السنۃ اور مسلک حنفی کو اپنے دور میں ان بزرگوں سے بہت زیادہ تقویت پہنچی۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں وہ بہت پختہ تھے۔ علوم ظاہرہ کے علاوہ باطنی علوم میں بھی ان حضرات کا ایک خاص مقام تھا۔ ان دونوں بزرگوں نے امام الاولیاء قطب العارفین حضرت حاجی امداد اللہ صاحب چشتی مہاجر کی قدس سرہ سے روحانی فیضان حاصل کیا اور مقامات و ولایت میں اس مرتبہ کو پہنچے کہ خود حضرت حاجی صاحب موصوف نے اپنی تصنیف لطیف ضیاء القلوب صفحہ ۶۰ میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

۱۔ ولادت شعبان یا رمضان ۱۲۳۸ھ یوم پنجشنبہ بعد نماز ظہر۔ حضرت نانوتوی کے مفصل حالات و کمالات ”سوانح

قاسمی“ مولفہ حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی میں مطالعہ فرمائیں جو تین جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ ۱۲

۲۔ ولادت ۶ ذیقعدہ ۱۲۳۳ھ وفات یوم الجمعہ ۹ یا ۸ جمادی الثانیہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۱ اگست ۱۹۰۵ء حضرت گنگوہی قدس سرہ کے ظاہری و باطنی کمالات جاننے کے لیے ”تذکرہ الرشید“ مولفہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی قابل مطالعہ ہے جو دو جلدوں میں چھپ چکی ہے۔

نیز ہر کس کہ ازیں فقیر محبت و عقیدت وارادت دارد، مولوی رشید احمد صاحب سلمہ، و مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ، را کہ جامع جمیع کمالات علوم ظاہری و باطنی اند، بجائے من فقیر راقم اوراق بلکہ بہارج فوق از من شمارند اگرچہ بظاہر معاملہ برعکس شد کہ اوشاں بجائے من و من بمقام اوشاں شدم و صحبت اوشاں را غنیمت دانند کہ ایں چنین کساں دریں زمانہ نایاب اند و از خدمت بابرکت ایثاں فیض یاب بودہ باشند و طریق سلوک کہ دریں رسالہ نوشتہ شد در نظر شاں تحصیل نمایند انشاء اللہ بے بہرہ نخواہند ماند۔ اللہ تعالیٰ در عمر ایثاں برکت دہاد۔ و از تمامی نعمائے عرفانی و کمالات قربت خود مشرف گرداناد و بجرمۃ النبی و آلہ الامجاد

جو لوگ مجھ فقیر سے محبت و عقیدت و ارادت رکھتے ہیں، مولوی رشید احمد صاحب سلمہ اور مولوی قاسم صاحب سلمہ کو جو کمالات علوم ظاہری و باطنی کے جامع ہیں، مجھ فقیر کی بجائے بلکہ مجھ سے کتنے درجے اوپر جائیں اگرچہ بظاہر معاملہ برعکس ہوا کہ وہ میری جگہ اور میں ان کی جگہ ہو گیا۔ ان کی صحبت کو غنیمت جانیں کیونکہ ایسے لوگ اس زمانہ میں نایاب ہیں اور ان کی بابرکت صحبت سے فیض حاصل کریں اور سلوک کا جو طریق اس رسالے میں لکھا گیا ہے وہ ان کے پاس سے حاصل کریں انشاء اللہ محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دیں اور تمام عرفانی نعمتوں اور اپنے قرب کے کمالات سے ان کو مشرف فرمائیں اور بلند درجات تک پہنچائیں اور ان کی ہدایت کے نور سے تمام جہان کو منور فرمائیں۔ اور تاقیامت ان کا فیض جاری رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بزرگ آل کے واسطے سے

حضرت حاجی صاحب موصوف چشتی سلسلہ میں اپنے دور میں ایک بے نظیر ہستی تھے

جن کا روحانی فیضان عرب و عجم میں پھیلا۔ امام الاولیاء کی اس شہادت کے بعد ان بزرگوں کی تصدیق کے لیے کسی اور شہادت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء

یشاء

## ۱۸۵۷ء کا جہاد حریت:

مغلیہ شاہی خاندان کے زوال کے بعد اسلام کے بدترین اور چالاک دشمن انگریز نے جب ہندوستان پر اپنی جاہلانہ حکومت قائم کر لی تو ۱۸۵۷ء میں علماء حق اور حریت پسند طبقہ نے انگریزی حکومت کے خلاف ایک زبردست آزادی کی جنگ لڑی۔ اس جہاد حریت میں علماء اسلام کی قیادت حضرت حاجی صاحب موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی۔ اکابر دیوبند حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی اور حضرت حافظ ضامن صاحب وغیرہ نے اس جہاد کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری مجاہدانہ کوششیں صرف کر دیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ۱۸۵۷ء کے اس قیامت نما ہنگامہ میں انگریزی حکومت نے تیرہ ہزار سے زائد علماء اسلام کو پھانسی پر لٹکایا اور بعض مجاہدین کو نہایت وحشیانہ سزائیں دی گئیں۔ بعض مسلمانوں کے بدن پر خنزیر کی چربی ملی گئی اور زندہ ان کو خنزیر کی کھالوں میں سی کر آگ میں جلادیا گیا۔ غرض یہ کہ اس سفاک دشمن نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر اہل ملک کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ ملک پر سیاسی و مادی تسلط پانے کے بعد انگریز کے ناپاک عزائم یہ تھے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے بھی اسلامی نقوش و آثار مٹا دیے جائیں اور قرآنی تعلیمات کو گہری سازش سے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ لارڈ میکالے اور اس کی تعلیمی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں حسب ذیل الفاظ لکھے تھے:-

”ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔“ (تاریخ التعلیم میجر باسو، ص ۱۰۵)

مرحوم اکبر الہ آبادی نے اسی حقیقت کو اس شعر میں بیان کیا ہے:

یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا  
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی

انگریزی دور کے مظالم اور فرنگی حکومت کی مسلم کش پالیسی کی تفصیلات کے لیے ”نقش حیات“ جلد اول، مولفہ شیخ اسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں۔ ۱۲

## دارالعلوم دیوبند کی بنیاد:

انگریزی حکومت کے عزائم اور اس کے فرعونی اقتدار کے خوفناک نتائج کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے اپنی قوت قدسیہ سے پہلے ہی ادراک کر لیا تھا۔ ۱۸۵۷ء کی ناکامی کی تلافی اور اسلامی علوم و نظریات کے تحفظ کے لیے دیوبند میں ایک دینی عربی مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت کے اکابر اولیاء اللہ کی دعائیں اس مدرسہ کے شامل حال تھیں۔ چنانچہ اس عظیم الشان مدرسہ کا افتتاح بتاریخ ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ مسجد چھتہ میں انار کے مشہور درخت کے نیچے ہوا۔ اس تاریخی درسگاہ کے سب سے پہلے معلم حضرت مولانا محمود صاحب اور پہلے معلم محمود الحسن تھے جو بعد میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا کی تاریخی شخصیت سے جہان میں مشہور ہوئے۔ خداوند عالم کی رحمت و نصرت سے یہ دینی درسگاہ بعد میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے عالم اسلامی کے لیے سرچشمہ علوم و معارف بنی، جس کے فیوض و برکات سے آج تک ایک عالم مستفید ہو رہا ہے۔ ”تاریخ دیوبند“ میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دارالعلوم دیوبند کو خواب میں سرور کائنات ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آنحضرت ﷺ مدرسہ کے کنوئین پر تشریف فرما ہیں اور کتواں دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ ایک بڑا جوم لوگوں کا سامنے ہے۔ لوگوں کے پاس چھوٹے بڑے برتن ہیں اور ساقی کوثر ﷺ سب کے برتنوں کو دودھ سے بھر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر بزرگوں نے یہ نکالی کہ انشاء اللہ اس مدرسہ سے شریعت محمدیہ کے علوم و فیوض کے چشمے جاری ہوں گے جن سے ایک جہان سیراب ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ اس دور میں دارالعلوم دیوبند ایک مجددی حیثیت رکھتا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس دارالعلوم کے ذریعہ کتاب و سنت کے علوم و معارف کا جو فیضان اطراف عالم میں پھیلا ہے اس کی نظیر اس زمانہ میں نہیں مل سکتی۔ عالم اسباب کے پیش نظر اگر دارالعلوم کا وجود نہ ہوتا تو متحدہ ہندوستان میں مذہب اہل السنۃ والجماعت کا صرف نام ہی باقی رہ جاتا۔ لیکن اکابر دارالعلوم کی اصلاحی اور تجدیدی مساعی سے شرک والحاد کی ظلمتیں چھٹ گئیں اور توحید و سنت کے انوار پھیل گئے۔ بانی دارالعلوم حضرت نانوتوی نے دارالعلوم اور دیگر دینی مدارس کے لیے آٹھ بنیادی اصول وضع فرمائے تھے جن پر دارالعلوم کی علمی و دینی ترقیات موقوف

ہیں۔ ۱۹۲۳ء میں بسلسلہ تحریک خلافت مشہور مسلم لیڈر مولانا محمد علی صاحب جوہر مرحوم جب دیوبند تشریف لائے اور ان کو حضرت نانوتویؒ کے یہ آٹھ اصول بتلائے گئے، تو آپ روپڑے اور فرمایا کہ یہ اصول تو الہامی معلوم ہوتے ہیں بلاشبہ دارالعلوم نے اس صدی میں بلامبالغہ ہزاروں محدث، مفسر، فقیہ، متکلم، صوفی، عارف اور مجاہد پیدا کیے ہیں۔ حجتہ الاسلام حضرت نانوتویؒ اور قطب الارشاد حضرت گنگوہیؒ کے فیض یافتہ تلامذہ و متوسلین میں سب سے جامع تر شخصیت امام انقلاب شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب<sup>۲</sup> سیر المآثر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب العلم ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے سینکڑوں تلامذہ و مسترشدین میں سے شیخ العرب والعجم امیر المجاہدین حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی<sup>۳</sup> شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، جامع کمالات صوری و معنوی حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری محدث دیوبند، مفتی اعظم سند العلماء حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب دہلوی شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ دہلی، شیخ الاسلام حضرت مولانا شیخ شبیر احمد صاحب عثمانی، صاحب فتح الہامیہ شرح صحیح مسلم (التوفی ۱۳۶۹ھ ۱۹۴۹ء) اور بطل حریت، داعی انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی، وہ ممتاز شخصیتیں ہیں جن کے ذریعہ دیوبندی مسلک کو ہر شعبہ میں بہت زیادہ تقویت پہنچی۔ علاوہ ازیں اکابر دیوبند میں سے حکیم الامت، امام طریقت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ، صاحب تفسیر بیان القرآن (التوفی ۱۳۶۳ھ) کو بھی حضرت شیخ الہند کی شاگردی کا شرف حاصل

۱۔ ملاحظہ ہو آزادی ہند کا خاموش رہنما، دارالعلوم دیوبند، مولفہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دام فیضہم۔

۲۔ اسارت مالٹا کے اسباب و اوقات کے لیے ملاحظہ ہو کتاب ”سیر مالٹا“ مؤلفہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔

۳۔ ولادت ۱۹ شوال ۱۲۹۶ھ مطابق ۱۸۷۹ء۔ وفات بروز جمعرات ۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۷ھ مطابق ۵ دسمبر ۱۹۵۷ء حضرت مدنی نے تقریباً ۱۴ سال مدینہ منورہ مسجد نبوی میں کتاب و سنت کا درس دیا ہے۔ حضرت کی خودنوشت سوانح عمری ”نقش حیات“ دو جلدوں میں چھپ چکی ہے اور مکتوبات شیخ الاسلام بھی چار جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں جو علوم و معارف کا گنجینہ ہیں۔ ۱۲

۴۔ حضرت تھانویؒ کی تصانیف کی تعداد تقریباً ایک ہزار تک پہنچتی ہے ان میں حضرت کے مواعظ و ملفوظات علوم و معارف کا بہترین مجموعہ ہیں۔

ہے۔ شیخ التفسیر، قطب زماں، صاحب کشف و کرامت حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ (جو دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ ہیں) اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس آج تک جامع الظاہر والباطن ہوئے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ گیارہ مرتبہ حریم شریفین کی حاضری نصیب ہوئی ہے، جہاں روئے زمین کے اولیاء اللہ جمع ہوتے ہیں لیکن اتنی مدت میں نے وہاں حضرت مدنی جیسا جامع بزرگ نہیں دیکھا۔ علاوہ مذکورہ بزرگوں کے شیخ المشائخ العارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب راپوری اور قطب دوراں، واصل باللہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب راپوری بھی حضرات اکابر دیوبند کے فیض یافتہ ہیں، جن کے انوار ولایت نے ہزاروں قلوب میں معرفت کے چراغ جلا دیئے۔ امیر شریعت، مجاہد حریت، بطل جلیل، خطیب امت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جمال و جلال بھی اکابر دیوبند ہی کا پرتو ہے جس نے ہزاروں نوجوانوں میں عشق ختم نبوت کی آگ لگادی۔ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین!

### ایک تکفیری فتنہ:

انگریز ان مجاہدین حریت اور علمائے حق کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ جب اس نے دارالعلوم دیوبند اور ان کے اکابر کے علمی و دینی اثرات کو پھیلنے دیکھا تو اس نے اس سرچشمہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کیں۔ بعض دنیا پرست مولویوں اور پیروں کو خرید لیا اور ان کے ذریعہ ان حضرات پر وہابیت کا الزام لگایا، اور اس سے پہلے بھی ان اکابر کے اسلاف امام المجاہدین، قدوۃ الکالمین حضرت سید احمد شہید بریلوی اور عالم ربانی، مجاہد جلیل حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید کی مجاہدانہ قربانیوں کو اسی وہابیت کے الزام سے ناکام بنانے کی کوشش کی جا چکی تھی۔ خدا جانے وہ کون سے اسباب و عوامل تھے کہ فرقہ بریلویہ کے بانی مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اکابر دیوبند کے خلاف تکفیری مہم تیز کر دی۔

### ”حسام الحرمین“ کی حقیقت:

مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی موصوف نے ۱۳۲۳ھ میں سفر حج اختیار کیا۔ حج سے فراغت کے بعد انہوں نے مکہ معظمہ میں ہی ایک رسالہ مرتب کیا جس میں اکابر دیوبند کی



عبارات کو لفظی و معنوی تحریف کر کے درج کیا گیا، اور طرفہ یہ کہ ان محبت و اطاعت محمدی میں ڈوبی ہوئی شخصیتوں پر یہ اتہام لگایا کہ معاذ اللہ انہوں نے اپنی کتابوں میں خدا کو جھوٹا کہا ہے اور سرور دو عالم ﷺ کو گالیاں دی ہیں۔ رسالہ کو اس طریق سے مرتب کیا کہ پہلے فرقہ قادیانیہ کے عنوان سے مرزا غلام احمد متنتی قادیان کی کفریہ عبارتیں درج کیں اور اس کے بعد اکابر دیوبند کو فرقہ وہابیہ کذابہ اور فرقہ وہابیہ شیطانیہ کے قبیح عنوانات کے تحت متعدد فرقوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ناواقف لوگ یہ سمجھیں کہ فرقہ قادیانیہ کی طرح ہندوستان میں یہ بھی کوئی مستقل جدید فرقہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس رسالہ میں اکابر دیوبند میں سے حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہی، فخر العارفین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری مصنف بذل المجد و شرح سنن ابوداؤد، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی خلیفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کی عبارتوں کو توڑ موڑ کر پیش کر کے ان پر قطعی تکفیر کا فتویٰ صادر کیا، اور یہاں تک لکھا کہ جو شخص ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔

علمائے حرمین شریفین سے اس فتویٰ کی تصدیقات حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع و وسائل سے کام لیا گیا۔ یہ حضرات چونکہ اکابر دیوبند اور ان کی تصانیف سے پورے متعارف نہ تھے، اس لیے رسالہ کی مندرجہ عبارات کے پیش نظر اپنی تصدیقات لکھ دیں۔ ان میں سے محتاط علماء نے یہ لکھا کہ اگر واقعی ان کے عقائد ایسے ہیں تو فتویٰ درست ہے۔ حجاز سے واپسی پر کچھ عرصہ سکوت کرنے کے بعد مولوی احمد رضا خان صاحب نے یہ رسالہ ”حسام الحرمین“ کے نام سے ہندوستان میں ۱۳۲۵ھ میں طبع کرایا۔

المہند علی المفند:

ان ایام میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی مدینہ منورہ میں ہی

[۱] اس کی تفصیل الشہاب الثاقب مصنف شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

[۲] اکابر دیوبند کی جن عبارات کو ہدف تکفیر بنایا گیا ہے، ان کے تحقیقی جوابات کے لیے حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ ”الشہاب الثاقب“ مولفہ شیخ الاسلام حضرت مدنی ”تزکیۃ الخواطر“ و ”السحاب المدرار“ مصنفہ حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری۔ اور ”فیصلہ کن مناظرہ“ مولفہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدیر ماہنامہ ”الفرقان“ لکھنؤ۔ اور ”فیصلہ خصومات“ مصنفہ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب جگنپوری (برہما)۔

حاضر باش تھے اور مسجد نبوی میں آپ کا درس بہت عروج پر تھا، لیکن حسام الحرمین کی کارروائی اس طرح رازداری میں رکھی گئی کہ آپ کو اس وقت اس کا مکمل علم نہ ہو سکا۔ اس تکفیری سازش سے مطلع ہونے کے بعد حضرت مدنی نے اکابر علمائے حرمین شریفین کو حقیقت حال سے مطلع کیا تو ان حضرات نے چھبیس سوالات قلم بند کر کے اکابر دیوبند کو جواب کے لیے ارسال کیے۔ اس وقت حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کا وصال ہو چکا تھا۔ مذکورہ سوالات کے جوابات فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے فصیح عربی زبان میں مرتب فرمائے جس پر اس وقت کے تمام مشاہیر دیوبند مثلاً شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اسوۃ الصالحاء حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رانپوری، بقیۃ السلف حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتمم دارالعلوم ابن حجتہ الاسلام حضرت نانوتوی، عارف کامل حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم، اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے اپنی تصدیقات تحریر فرمائیں۔ مشاہیر ہند کے علاوہ حجاز، مصر اور شام وغیرہ اسلامی ممالک کے مقتدر علماء اور مشائخ نے بھی اپنی تصدیقات سے اس کو مزین فرمایا۔ چنانچہ یہ رسالہ ۱۳۲۵ھ میں تحریر ہوا اور ”المہند علی المفند“ کے نام سے ملک میں شائع کیا گیا۔ اس رسالہ میں مذکورہ سوالات کی روشنی میں اکابر دیوبند کے عقائد حقہ کی تشریح و توضیح کی گئی ہے جس سے مخالفین و معاندین کی تلبیسات کا پردہ چاک ہو کر بزرگان دیوبند کا حقانی و حقیقی مسلک واضح ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ”المہند“ اکابر دیوبند کی ایک ایسی متفقہ تاریخی دستاویز ہے جس میں دیوبندی مسلک اصولی طور پر محفوظ کر دیا گیا ہے۔

طبع جدید:

گو ”المہند“ کا اردو ترجمہ عقائد علمائے دیوبند کے نام سے متعدد بار شائع ہوا ہے لیکن عربی متن مع ترجمہ اردو عرصہ سے نایاب تھا، جس کی علمائے کرام کو طلب تھی۔ الحمد للہ اس تاریخی دستاویز کی جدید طباعت و اشاعت کی سعادت حق تعالیٰ نے پاکستان میں رفیق محترم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی زید مجدہم مجاز حضرت لاہوری کو نصیب فرمائی ہے۔ جن کی مساعی سے یہ علمی و عرفانی ہدیہ اہل اسلام کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندہ ناکارہ اور

جملہ مسلمانوں کو سلف صالحین ائمہ محققین، اہل سنت اور اکابر دیوبند کے مسلک حق پر قائم رکھیں۔  
آمین! بحرمیت سید المرسلین ﷺ

الاحقر مظہر حسین غفرلہ

مدنی جامع مسجد، چکوال

ضلع جہلم

۲۳ رمضان المبارک

۱۳۸۲ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل بسطواته  
نصر المؤمنين وقال كان حقا علينا نصر المؤمنين وقطع كيد  
الخائنين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العلمين.  
والصلوة والسلام على مفرق فرق الكفر والطغيان و مشتت  
جيوش بغاة القرين والشيطان. و على اله وصحبه اشداء على  
الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يتغنون فضلا من الله  
ورضوانا ماتعاقب النيران و تضاد الكفر والايمان.

اما بعد! حضرات ان چند سطور کو بغور ملاحظہ فرمائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ عالی جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور ان کی کوشش اور تدبیر کس انداز سے اسلام کو صدمہ پہنچا رہی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ مخالفین اسلام نے گونا گوں انداز سے اسلام کو صدمہ پہنچایا، مگر خان صاحب نے روافض کی طرح اختیار امت محمدیہ کو منتخب کر کے ان ہی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہا جیسے روافض نے امت کے خلاصہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو منتخب کر کے ان کی تکفیر کی، اور تبرہ بازی و سب و شتم سے کام لیا تھا۔ ایسے ہی خان صاحب نے اس وقت جو دین کے منتخب اور برگزیدہ جماعت کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ ان کو اپنے گھر کے دھوئیں سے مکدر کرنا چاہا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون  
چراغے را کہ ایزد بر فرورد  
کسے کو تفت زندریش بسوزد

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ خان صاحب کے خاندان میں چونکہ بدعت کی تخم ریزی پہلے ہی سے ہو چکی ہے، اس وجہ سے سب کے پچھلے نچوڑ خان صاحب احمد رضا خان، برعکس نہند نام زنگی کا فور، درحقیقت احمد رضا خان صاحب نے تمام ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ، فخر امت و معجزہ من معجزات سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم کے خاندان کو چٹا۔ اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید مرحوم و مظلوم اہل بدعت پر بوجہ بعض کلمات کے جو سخت اور عالی اہل بدعات کے جن کی بدعات شرک کی حد تک پہنچ گئیں تھیں، مقابلہ میں لکھے گئے تھے تمام قرآن حالیہ اور غیر حالیہ سے قطع نظر کر کے اتہامات لگائے اور ان پر ۷۰ کیا بلکہ غیر متناہیہ وجوہ سے کفر لازم کیا اور ان کا

۱۔ سلف صالحین اور محققین اہل سنت کا مسلک حق کیا تھا؟ اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو طائفہ منصورہ اور مقام ابوحنیفہ مولفہ حضرت مولانا علامہ محمد سرفراز خان صاحب فاضل دیوبند مصنف تبرید التواظر، راہ سنت وغیرہ۔ نیز مولانا موصوف نے حال ہی میں حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے حالات میں ایک رسالہ "بانی دارالعلوم دیوبند" تالیف فرمایا ہے، جس کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

کفر اجماعی قطعی قرار دے کر فقہائے کرام کا فتویٰ تکفیر چھاپ دیا۔ مگر حضرت شاہ صاحب کے خاندان کی عظمت مسلم ہو چکی تھی، اور اس خانہ تمام آفتاب ست کا مصداق تھا۔ پس اگر کوئی بد بخت یا ناواقف حضرت شہید مرحوم سے بدظن بھی ہو تو اور حضرات کا تقدس کیا بدعات کی جڑ اکھیرنے کو کم ہے۔ اس وجہ سے خان صاحب کو پوری کامیابی نہ ہوئی، اور چونکہ اس زمانہ میں بدعت کی تباہی حضرت شاہ صاحب کے خاندان کے جائز وارث اور ارشد تلامذہ حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب قدس سرہ العزیز نانوتوی حجتہ اللہ تعالیٰ فی الارض، اور حضرت رشید الاسلام والمسلمین آیۃ من آیات رب العالمین، حضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اسرارہم کے سپرد ہوئی اور حمایت سنت مصطفوی کا بلند جھنڈا انہی کے مقدس ہاتھوں میں دیا گیا جو مدرسہ عالیہ کی رفیع عمارت پر ان حضرات نے قائم فرمایا اور مثل کلمۃ طیبۃ کاشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء توتی اکلہا کل حین باذن ربہا کی طرح جیسے آسمان سے باتیں کرتا تھا، اپنے استحکام میں ساتویں زمین تک بھی پہنچا ہوا تھا اور ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ روم اور شام اور عرب و عجم، کابل و قندھار، بخارا و خراسان، چین و تبت وغیرہ دنیا کے تمام گوشوں سے نظر آتا تھا اور عاشقان سنت اس کے سبز پھریرہ کو دور ہی سے دیکھ کر سنت نبوی کی مہک اس سے پالیتے تھے اور آنکھ بند کیے چلے آتے تھے اور دیوبندی گلیوں میں پھرتے نظر آتے تھے اور یہاں کی خشک روٹی اور دال کو بریلی کے بدعت خانہ کے قورمہ پلاؤ پر ترجیح دیتے تھے، اور

ع بادشاہی سے بھی بہتر ہے گدائی تیری

کانرہ بلند کرتے تھے حوالیہ من کل فح عمیق کا نظارہ دیکھ کر خان صاحب نے ہمہ تن پوری توجہ انہی حضرات کے اثر مٹانے کی طرف فرمائی۔ حضرت شہید مظلوم پر ستر وجہ سے کفر ثابت فرما کر فقہائے کرام کا اجماعی قطعی فیصلہ قرار دے کر خود احتیاط کی تھی جس کی بنا پر خود فقہائے کرام اور اصحاب فتویٰ عظام کے نزدیک خود مع جملہ معتقدین کے کافر ہو چکے تھے مگر حضرات موصوفین حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب و حضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب قدس سرہم اور حضرت مولانا مولوی خلیل احمد صاحب اور حضرت مولانا مولوی اشرف علی صاحب دامت برکاتہم کا نام لے کر قطعی تکفیر کی اور یہ کہا کہ جو ان کے کافر کہنے میں تردد و تامل اور شک کرے وہ بھی قطعی کافر ہے۔ حضرت مولانا نانوتوی پر ختم زمانی کے انکار کرنے کا الزام لازم کیا اور حضرت مولانا

گنگوہی پر یہ افتراء کیا کہ وہ خدا کے کذب بالفعل کے جائز رکھنے والے کو مسلمان سنی بتاتے ہیں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مدت فیوضہم کی جانب یہ عنایت فرمائی کہ وہ براہین قاطعہ میں تصریح کرتے ہیں کہ ابلیس لعین کا علم رسول اللہ ﷺ کے علم سے زیادہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم پر یہ بہتان لگایا کہ حفظ الایمان میں تصریح کی کہ جس قدر علم رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے اتنا تو ہر صبی و مجنون و بہائم کو بھی حاصل ہے، لیکن چونکہ خان صاحب کا علم و فضل و تدین قابل اعتبار نہ تھا، اس وجہ سے یہ مضمون عربی عبارت کی کتاب المعتمد المستند میں لکھ کر اس کی تصدیق علماء حریم شریفین سے کرائی اور اس کا نام حسام الحرمین علی منحہ الکفر و المین رکھ کر تمام ہندوستان میں دند مچا دیا کہ دیکھو علماء حریم شریفین نے ہمارے فلاں فلاں مخالف کی قطعی تکفیر کر دی، اب ان کے کفر میں کیا شک باقی رہا۔ حالانکہ یہ بالکل افتراء محض ہے جو المسحاب المدرار اور توضیح البیان وغیرہ کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ خان صاحب کی اس مجرمانہ کارروائی کی خبر بعض علماء مدینہ منورہ کو ہوئی تب ان حضرات نے یہ چھبیس سوالات حضرات علماء دیوبند کی خدمت مبارک میں بھیجے کہ آپ کا ان میں کیا خیال ہے؟ اس کو صاف لکھیے تاکہ حق و باطل واضح ہو جائے چنانچہ فخر العلماء و المتکلمین حضرت مولانا مولوی خلیل احمد صاحب مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور نے ان کے جواب لکھ کر حریم شریفین کے علماء کی خدمت مبارک میں پیش فرمائے۔ علماء حریم شریفین زاد ہما اللہ شرفاً و تکریماً علماء مصر و حلب و شام و دمشق نے ان کی تصدیق فرمائی اور یہ لکھ دیا کہ یہ عقائد صحیح ہیں، ان کی وجہ سے نہ کوئی کافر ہو سکتا ہے نہ بدعتی اور نہ اہل السنۃ و الجماعت سے خارج۔ اہل اسلام کی اطلاع کی غرض سے علماء حریم شریفین و مصر و حلب و شام و دمشق کی تصدیقات بصورت رسالہ مسکئی بہ المہند علی المفند معروف بہ تصدیقات لدفع التلبیسات مع ترجمہ المسکئی بہ ماضی الشفرتین علی خدام اہل الحرمین طبع کر دیا گیا، تاکہ اہل اسلام کو خان صاحب کی ایمان داری پوری طرح سے معلوم ہو جائے، اب اہل ایمان خان صاحب سے دریافت فرمائیں کہ آپ نے حسام الحرمین پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ طائفے سب کے سب مرتد ہیں، باجماع امت اسلام سے خارج ہیں اور بے شک بنوازیہ اور دردر اور غرور اور فتاویٰ خیریہ اور مجمع الانہار اور درمختار وغیرہ معتمد کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں

فرمایا ہے کہ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے خود کافر ہے، انتہی۔ پھر صفحہ ۴۳ پر ہے حمد و صلوة کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ طائفے جن کا تذکرہ سوال میں واقع ہے، غلام احمد قادیانی اور رشید احمد اور جو ان کے پیرو ہوں جیسے خلیل احمد انپٹھی اور اشرف علی وغیرہ، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، نہ شک کی مجال، بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے، بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کافر کہنے میں توقف کرے، اس کے کفر میں بھی شک نہیں، انتہی۔ اور حضرات علماء حرین شریفین و مصر و حلب و شام ان تمام حضرات کو مسلمان اور ان کے جملہ عقائد کو عقائد اہل سنت لکھ کر ان کی تصحیح و تصدیق فرماتے ہیں تو اب جناب کے فتویٰ کے موافق یہ تمام حضرات اور جملہ اہل عرب و روم و دمشق و شام و مصر و عراق کیا قطعی کافر ہو گئے۔ کیا جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔ معاذ اللہ العظیم و نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

مسلمانو! یہ ہے خان صاحب کی محبت سنت، اور یہ ہیں وہ اہل السنۃ والجماعت کہ دنیا میں کسی کو بھی مسلمان نہ چھوڑا۔ بڑے بڑے کفار جو اسلام کے مٹانے کی تدابیر میں مصروف ہیں، خان صاحب نے ایک فتوے سے گویا سب کی مرادیں پوری کرادیں۔ مگر اسلام کا منادینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی اپنا منہ دین دنیا میں کالا کرے مگر آفتاب اسلام تو قیامت تک تاباں ہی رہے گا۔ چونکہ رئیس فرقہ مبتدعہ عالی جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی کی حسام الحرمین کی حقیقت منکشف ہو گئی کہ خان صاحب نے جو کچھ لکھا تھا، وہ محض افتراء خالص تھا، علماء کرام حضرات دیوبند کو کافر نہ کہیں اور ان کے کفر میں کسی طرح شک و تردید و تامل کرے، وہ بھی قطعی کافر ہے۔ اس لیے اس رسالہ کے دیکھنے سے واضح ہو جائے گا کہ علماء حرین شریفین زاد ہما اللہ شرفاً و تکریماً حضرات دیوبند کے عقائد کی تصحیح فرما رہے ہیں۔

پس اب دیکھنا ہے کہ خان صاحب اپنے قول سے رجوع کرتے ہیں یا علماء دیوبند کے ساتھ علماء حرین شریفین و مصر و حلب و شام و دمشق سب کی تکفیر کرتے ہیں کیونکہ تمام علماء حضرات دیوبند کو مسلمان کہتے ہیں اور رد الحسام علی روس اللنام ہو کر حضرات دیوبند ربانی و متبحر علامہ بتائے جا رہے ہیں اب ہم دیکھیں کہ خان صاحب کے پاس کون سی ترکیب اور کرامت ہے جس سے علماء دیوبند تو کافر رہیں اور علماء حرین شریفین و مصر و حلب و شام مسلمان بنے رہیں۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مد فیوضہم کو کہیں علماء تحریر کرتے ہیں، کہیں یکتائے زمانہ، کہیں انخی العزیز، کہیں شیخ وقت، کہیں مقتدائے انام اور کہیں پیشوائے امت۔ چنانچہ تقاریر

و تصادیق کے الفاظ سے ناظرین پر واضح ہوگا، اور جو برتاؤ حضرات علماء حرین شریفین کا بوقت ملاقات جسمانی مولانا ممدوح کے ساتھ ہوا اور زبانی گفتگو پر جو وقعت و عزت ان حضرات کے قلوب میں پیدا اور جو ارجح سے ظاہر ہوئی، اس کا تو ذکر کیا گیا جائے کہ مصافحہ و معانقہ و انبساط کے علاوہ سلطان دو جہاں جناب رسول اللہ ﷺ کی مسجد محترم میں مدینہ الرسول کے بیسیوں شہزادوں نے مولانا ممدوح کے تلمذ کو فخر سمجھا، مسلمات خاندان ولی اللہی کے علاوہ صحاح کی اجازت حاصل فرما کر مسرور متوج ہوئے۔ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

حق تعالیٰ شانہ کے ان احسانات جلیلہ کا ذکر کرنا چونکہ حاسدوں کی کلس بڑھاتا ہے، اس لیے یہ تفصیل بیان نہیں کی جاتی، منصفانہ نظر سے دیکھنے والے کو یہ رسالہ ہی کافی ہے، جس کی اصل مہر و دستخطی ہمارے پاس محفوظ ہے اور مطبوعہ نقل عام طور پر ہدیہ ناظرین ہے۔ اس وجہ سے عرض ہے کہ جملہ اہل اسلام نہایت اطمینان سے المہند اور اس کے ترجمہ کو ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حضرات علماء کرام دیوبند کے عقائد بالکل صحیح اہل السنۃ والجماعت کے موافق ہیں اور جملہ اہل حق علماء ربانی حضرات علماء کے ساتھ ہیں نہ کہ خان صاحب کے۔ سواب کوئی بات ایسی باقی نہیں رہی جس کو اہل بدعات ان حضرات کی طرف منسوب کر کے غیر مقلد یا وہابی کہہ سکیں۔ خان صاحب کا مکر کھل گیا اور ان کی تدابیر کا خاتمہ ہو چکا۔ والحمد للہ علی ذالک۔

خان صاحب فقط حضرات دیوبند اور خادمان سنت ہی کے مخالف اور دشمن نہیں ہیں، ان کے انداز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نفس اسلام ہی کے دشمن ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو سب کو جہاں پہنچائیں، معلوم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس دین کا حافظ ہے، اس لیے آسمان کا تھوکا حلق میں آتا ہے اور جو اس شریعت بیضا میں رخنہ اندازی کرتا ہے خود رو سیاہ اور ذلیل و خوار بنتا ہے۔

چونکہ یہ تمہید ہے رسالہ مہند کی اس لیے اختصار ملحوظ رکھ کر بقدر کفایت درج کر دی گئی ہے۔ ہاں جن صاحبوں کو اس بحث کی تفصیل مطلوب ہو، وہ تشیید الایمان بالسنة والقران کو ملاحظہ فرمائیں، جس میں خان صاحب کی عیاری قدرے مفصل مذکور ہے اور رسائل مفصلہ ذیل جو خان صاحب کے رد میں لکھے گئے ہیں مطالعہ کریں:

اسکات المعتدی، قاصمة الظهر، الطین اللازب، السہیل علی الجعیل، الختم علی لسان الخصم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

ایہا العلماء الكرام و الجہادۃ العظام  
قد نسب الیٰ ساحتكم الكريمة اناس  
عقائد الوهابية قالوا باوراق ورسائل  
لانعرف معانيها لاختلاف اللسان  
فخرجوان تخبرونا بحقيقة الحال  
ومراتدات المقال ونحن نستلکم عن  
امور اشتهر فيها خلاف الوهابية عن  
اهل السنة والجماعة.

اے علماء کرام اور سرداران عظام! تمہاری جانب  
چند لوگوں نے وہابی عقائد کی نسبت کی ہے اور چند  
اوراق اور رسالے ایسے لائے جن کا مطلب غیر  
زبان ہونے کے سبب ہم نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے  
امید کرتے ہیں، ہمیں حقیقت حال اور قول کے  
مراد سے مطلع کرو گے اور ہم تم سے چند امور ایسے  
دریافت کرتے ہیں جن میں وہابیہ کا اہل سنت  
واجتماع سے خلاف مشہور ہے۔

### السؤال الاول والثاني

(۱) ماقولکم فی شدالرحال الی زیارة  
سید الکائنات علیہ افضل الصلوات  
والتحیات وعلیٰ اله وصحبہ  
(۲) ای الامرین احب الیکم  
وافضل لدى اکابرکم للزائرهل  
ینوی وقت الارتحال للزیارة زیارته  
علیہ السلام او ینوی المسجد ایضاً  
وقد قال الوهابية ان المسافر الی  
المدينة لاینوی الا المسجد النبوی.

تمہارے نزدیک اور تمہارے اکابر کے نزدیک ان دو  
باتوں میں کونسا امر پسندیدہ و افضل ہے کہ زیارت  
کرنے والا بوقت سفر زیارت خود آنحضرت ﷺ  
کی زیارت کی نیت کرے یا مسجد نبوی کی بھی،  
حالانکہ وہابیہ کا قول ہے کہ مسافر مدینہ منورہ کو صرف  
مسجد نبوی کی نیت سے سفر کرنا چاہیے۔

### الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم  
ومنہ نستمد العون والتوفيق وبيده  
شرح اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے رحم والا  
اور اسی سے مدد اور توفیق درکار ہے، اور اس کے

ازمة التحقيق.  
قبضہ میں ہیں تحقیق کی باگیں۔

حامدًا ومصليًا ومسلماً

حمد و صلوة و سلام کے بعد

ليعلم او لا قبل ان نشرع في الجواب  
انا بحمدالله ومشائخنا رضوان الله  
عليهم اجمعين وجميع طائفتنا و  
جماعتنا مقلدون لقدوة الانام وذروة  
الاسلام امام الهمام الامام الاعظم ابى  
حنيفة النعمان رضى الله تعالى عنه في  
الفروع و متبعون للامام الهمام ابى  
الحسن الاشعري و الامام الهمام ابى  
منصور الماتريدى رضى الله تعالى  
عنهما في الاعتقاد و الاصول  
ومنتسبون من طرق الصوفية الی  
الطريقة العلية المنسوبة الی السادة  
النقشبندية و الطريقة الزكية المنسوبة  
الی السادة الجشتية و الی الطريقة  
البيهة المنسوبة الی السادة القادرية  
والی الطريقة المرضية المنسوبة الی  
السادة السهروردية رضى الله تعالى  
عنهم اجمعين.

اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں،  
جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری  
ساری جماعت بجز اللہ فروعات میں مقلد ہیں  
مقتدائے خلق حضرت امام ہمام امام اعظم ابو  
حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،  
اور اصول و اعتقادات میں پیرو ہیں امام  
ابوالحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی  
اللہ عنہما کے اور طریق ہائے صوفیہ میں ہم کو  
انتساب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات  
نقشبندیہ، اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت، اور  
سلسلہ بیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مرضیہ  
مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ۔

ثم ثانياً انا لا نتكلم بكلام ولا  
نقول قولاً في الدين الا وعليه عندنا  
دليل من الكتاب او السنة او اجماع  
الامة او قول من ائمة المذهب ومع

دوسری بات یہ کہ ہم دین کے بارے میں کوئی  
بات ایسی نہیں کہتے جس پر کوئی دلیل نہ ہو، قرآن  
مجید کی یا سنت کی، یا اجماع امت یا قول کسی امام  
کا۔ اور بایں ہمہ ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ قلم کی غلطی

ذلک لا ندعی انا لمبرؤن من الخطاء والنسیان فی ضلۃ القلم و زلۃ النسیان فان ظہرنا انا اخطانا فی قول سواء کان من الاصول او الفروع فما یمنعنا الحیاء ان نرجع عنه ونعلن بالرجوع کیف لا وقد رجع ائمتنا رضوان اللہ علیہم فی کثیر من اقوالہم حتی ان امام حرم اللہ تعالیٰ المحترم امامنا الشافعی رضی اللہ عنہ لم یبق مسئلۃ الاولہ فیہا قول جدید و الصحابۃ رضی اللہ عنہم رجعوا فی مسائل الی اقوال بعضہم کما لا ینحی علی متبع الحدیث فلو ادعی احد من العلماء انا غلطنا فی حکم فان کان من الاعتقادات فعلیہ ان یشیت بنص من ائمة الکلام و ان کان من الفرعیات فیلزم ان ینبئ بنیانہ علی القول الراجح من ائمة المذاهب فاذا شغل ذلک فلا یکون منا ان شاء اللہ تعالیٰ الا الحسنی القبول بالقلب واللسان و زیادة الشکر بالجنان وارکان.

وثالثا ان فی اصل اصطلاح بلاد

تیسری بات یہ کہ ہندوستان میں لفظ وہابی کا

الہند کان اطلاق الوہابی علی من ترک تقلید الائمة رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثم اتسع فیہ وغلب استعمالہ علی من عمل بالسنة السنیة وترک الامور المستحدثة الشنیعة و الرسوم القبیحة حتی شاع فی بمبئی و نواحیہا ان من منع عن سجدة قبور الاولیاء وطوافہا فهو وہابی بل و من اظہر حرمة الربوا فهو وہابی و ان کان من اکابر اهل الاسلام وعظمائہم ثم اتسع فیہ حتی صار سببا فعلی هذا لو قال رجل من اهل الہند لرجل انه وہابی فهو لا یدل علی انه فاسد العقیدة بل یدل علی انه سنی حنفی عامل بالسنة مجتنب عن البدعة خائف من اللہ تعالیٰ فی ارتکاب المعصیة ولما کان مشائخنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم یسعون فی احیاء السنة و یشمرون فی اخماد نیران البدعة غضب جند ابلیس علیہم و حرفوا کلامہم و بہتوہم و افتروا علیہم الا افتراءات و رموہم بالوہابیة وحاشاہم عن ذلک بل وتلك سنة اللہ التي سنہا فی خواص

استعمال اس شخص کے لیے تھا جو ائمہ رضی اللہ عنہم کی تقلید چھوڑ بیٹھے پھر ایسی وسعت ہوئی کہ یہ لفظ ان پر بولا جانے لگا، جو سنت محمدیہ پر عمل کرے اور بدعات سیدہ و رسوم قبیحہ کو چھوڑ دیں۔ یہاں تک ہوا کہ بمبئی اور اس کے نواح میں یہ مشہور ہے کہ جو مولوی اولیاء کی قبروں کو سجدہ اور طواف کرنے سے منع کرے وہ وہابی ہے بلکہ جو سود کی حرمت ظاہر کرے وہ بھی وہابی ہے گو کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد لفظ وہابی ایک گالی کا لفظ بن گیا، سواگر کوئی ہندی شخص کسی کو وہابی کہتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کا عقیدہ فاسد ہے بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ سنی حنفی ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، بدعت سے بچتا ہے اور معصیت کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم احیاء سنت میں سعی کرتے اور بدعت کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان باندھے، طرح طرح کے افتراء اور خطاب وہابیت کے ساتھ متہم کیا مگر حاشا کہ وہ ایسے ہوں بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ جو خواص اولیاء میں ہمیشہ جاری رہی ہے چنانچہ اپنی کتاب میں خود ارشاد فرمایا ہے ”اور اسی طرح ہم نے ہرنبی کے دشمن بنا دیئے ہیں جن و انس کے شیاطین کہ ایک دوسرے کی طرف

اولیائہ کما قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ ”  
 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا  
 شياطين الانس والجن يوحى بعضهم  
 الي بعض زخرف القول غرورا  
 ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما  
 يفترون“ فلما كان ذلك في الانبياء  
 صلوات الله عليهم وسلامه و جب ان  
 يكون في خلفائهم و من يقوم  
 مقامهم كما قال رسول الله صلى  
 الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء  
 اشد الناس بلاءً ثم الامثل فالمثل  
 ليتوفر حظهم ويكمل لهم اجرهم  
 فالذين ابتدعوا البدعات ومالوا الي  
 الشهوات و اتخذوا الههم الهوى  
 والقوا انفسهم في هاوية الردى  
 يفترون علينا الاكاذيب والباطيل و  
 ينسبون لنا الاضاليل فاذا نسب لنا  
 في حضرتكم قول يخالف المذهب  
 فلا تلتفتوا اليه لا تظنوا بنا الاخيرا و  
 ان اختلج في صدوركم فاكتبوا لنا  
 فانا نخبركم بحقيقة الحال والحق  
 من المقال فانكم عندنا قطب دائرة  
 الاسلام.

جھوٹی باتیں ڈالتا رہتا ہے، دھوکا کے لیے  
 اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تمہارا رب چاہتا  
 تو یہ لوگ ایسا کام نہ کرتے سو چھوڑو ان کو، اور ان  
 کے افتراء کو۔ پس جب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ  
 یہ معاملہ رہا تو ضرور ہے کہ ان کے جانشینوں اور  
 قائم مقاموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ چنانچہ  
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ  
 سب سے زیادہ مورد بلا ہے، پھر کامل اشبہ پھر کم  
 اشبہ تا کہ ان کا حظ وافر اور اجر کامل ہو جائے۔ پس  
 مبتدعین جو اختراع بدعات میں منہمک اور شہوات  
 کی جانب مائل ہیں اور جنہوں نے خواہش نفس کو  
 اپنا معبود بنایا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت کے  
 گڑھے میں ڈال دیا ہے ہم پر جھوٹے بہتان  
 باندھے اور ہماری جانب گمراہی کی نسبت کرتے  
 رہتے ہیں، جو صاحب کبھی آپ کی خدمت میں  
 ہماری جانب منسوب کر کے کوئی مخالف مذہب قول  
 بیان کیا کرے تو آپ اس کی طرف التفات نہ  
 فرمایا کریں اور ہمارے ساتھ حسن ظن کام میں  
 لائیں اور اگر طبع مبارک میں کوئی خلجان پیدا ہو تو  
 لکھ بھیجا کریں، ہم ضرور واقعی حال اور سچی بات کی  
 اطلاع دیں گے اس لیے کہ آپ حضرات ہمارے  
 نزدیک مرکز دائرۃ الاسلام ہیں۔

## توضیح الجواب

عندنا وعند مشائخنا زيارة قبر سيد  
 المرسلين (روحي فداه) من اعظم  
 القربات واهم المثوبات و انجح  
 لنيل الدرجات بل قربة من الواجبات  
 و ان كان حصوله بشد الرحال وبذل  
 المهج والاموال و ينوي وقت  
 الارتحال زيارة عليه الف الف تحية  
 وسلام وينوي معها زيارة مسجده  
 صلى الله عليه وسلم وغيره من  
 البقاع و المشاهد الشريفة بل الاولى  
 ما قال العلامة الهمام ابن الهمام ان  
 يجرد النية لزيارة قبره عليه الصلوة  
 والسلام ثم يحصل له اذا قدم زيارة  
 المسجد لان في ذلك زيادة تعظيمه  
 واجلاله صلى الله عليه وسلم  
 ويوافقه قوله صلى الله عليه وسلم  
 من جاءني زائرا لا تحمله حاجة الا  
 زيارتي كان حقا علي ان اكون شفيعا  
 له يوم القيمة وكذا نقل عن العارف  
 السامي الملا جامي انه افرز الزيارة  
 عن الحج وهو اقرب الي مذهب  
 المحبين واما ما قالت الوهابية من ان  
 المسافر الي المدينة المنورة علي

## جواب کی توضیح

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک  
 زیارت قبر سید المرسلین (ہماری جان آپ پر  
 قربان) اعلیٰ درجہ کی قربت اور نہایت ثواب اور  
 سبب حصول درجات ہے بلکہ واجب کے قریب  
 ہے گو شدر حال اور بذل جان و مال سے نصیب ہو  
 اور سفر کے وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے  
 اور ساتھ میں مسجد نبوی اور دیگر مقامات و زیارت  
 گاہ ہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے بلکہ بہتر یہ ہے  
 کہ جو علامہ ابن ہمام نے فرمایا ہے کہ خالص قبر  
 شریف کی زیارت کی نیت کرے پھر اب وہاں  
 حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی بھی زیارت حاصل  
 ہو جائے گی۔ اس صورت میں جناب رسالت  
 مآب ﷺ کی تعظیم زیادہ ہے اور اس کی  
 موافقت خود حضور ﷺ کے ارشاد سے ہو رہی  
 ہے کہ جو میری زیارت کو آیا، کہ میری زیارت کے  
 سوا کوئی حاجت اس کو نہ لائی ہو تو مجھ پر حق ہے کہ  
 قیامت کے دن اس کا شفیق بنوں۔ اور ایسا ہی  
 عارف ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ  
 انہوں نے زیارت کے لیے حج سے علیحدہ سفر کیا  
 اور یہی طرز مذہب عشاق سے زیادہ ملتا ہے۔  
 اب رہا وہابیہ کا یہ کہنا کہ مدینہ منورہ کی جانب سفر  
 کرنے والے کو صرف مسجد نبوی کی نیت کرنی

ساكنها الف الف تحية لا ينوي الا المسجد الشريف استدلالا بقوله عليه الصلوة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلثة مسجد فمردود لان الحديث لا يدل على المنع اصلاً بل لو تامله ذو فهم ثاقب لعلم انه بدلالة النص يدل على الجواز فان العلة التي استثنى بها المساجد الثلاثة من عموم المساجد او البقاع هو فضلها المختص بها و هو مع الزيادة موجود في البقعة الشريفة فان البقعة الشريفة و الرحبة المنيفة التي ضم اعضائه صلى الله عليه وسلم افضل مطلقاً حتى من الكعبة ومن العرش و الكرسی كما صرح به فقهاؤنا رضی الله عنهم ولما استثنى المساجد لذلك الفضل الخاص فاولى ثم اولى ان يستثنى البقعة المباركة لذلك الفضل العام و قد صرح بالمسئلة كما ذكرناه بل باسبط منها شيخنا العلامة شمس العلماء العاملين مولانا رشيد احمد الجنجوهي قدس الله سره العزيز في رسالته زبدة المناسك في فضل زيارة المدينة المنورة وقد طبعت

چاہیے اور اس قول پر اس حدیث کو دلیل لانا کہ کجاوے نہ کسے جائیں مگر تین مسجدوں کی جانب، سو یہ قول مردود ہے اس لیے کہ حدیث کہیں بھی ممانعت پر دلالت نہیں کرتی۔ بلکہ صاحب فہم اگر غور کرے تو یہی حدیث بدالالت النص جواز پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جو علت سے مساجد کے دیگر مسجدوں اور مقامات سے مستثنیٰ ہونے کی قرار پاتی ہے، وہ ان مساجد کی فضیلت ہی تو ہے اور یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ بقعہ شریفہ میں موجود ہے اس لیے کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ ﷺ کے اعضاء مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے علی الاطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے چنانچہ فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے اور جب فضیلت خاصہ کی وجہ سے تین مسجدیں عموم نبی سے مستثنیٰ ہو گئیں تو بدرجہا اولیٰ ہے کہ بقعہ مبارکہ فضیلت عامہ کے سبب مستثنیٰ ہو۔ ہمارے بیان کے موافق بلکہ اس سے بھی زیادہ بسط کے ساتھ اس مسئلہ کی تصریح ہمارے شیخ شمس العلماء حضرت مولانا مولوی رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے اپنے رسالہ زبدة المناسک کی فصل زیارت مدینہ منورہ میں فرمائی، جو بارہا طبع ہو چکا ہے نیز اسی بحث میں ہمارے شیخ المشائخ مفتی صدر الدین دہلوی قدس سرہ کا ایک رسالہ تصنیف

مرازا و ايضاً في هذا المبحث الشريف رسالة لشيخ مشائخنا مولانا المفتي صدر الدين الدهلوي قدس الله سره العزيز اقام فيها الطامة الكبرى على الوهابية ومن وافقهم واتى ببراهين قاطعة و حجاج ساطعة سماها احسن المقال في شرح حديث لا تشد الرحال طبعت و اشتهرت فليراجع اليها والله تعالى اعلم.

### السؤال الثالث والرابع

(۳) هل للرجل ان يتوسل في دعواته بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة ام لا؟

(۴) ايجوز التوسل عندكم بالسلف الصالحين من الانبياء والصدقيين و الشهداء و اولياء العلمين ام لا؟

### الجواب

عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل في الدعوات بالانبياء والصالحين من الاولياء والشهداء والصدقيين في حياتهم وبعد وفاتهم بان يقول في دعائه اللهم اني اتوسل اليك بفلان ان تجيب دعوتي وتقضى حاجتي الي

کیا ہوا ہے جس میں مولانا نے وہابیہ اور ان کے موافقین پر قیامت ڈھادی اور شیخ کن دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ اس کا نام ”احسن المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال“ ہے وہ طبع ہو کر مشہور ہو چکا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

### تیسرا اور چوتھا سوال

کیا وفات کے بعد رسول اللہ ﷺ کا توسل لینا دعاؤں میں جائز ہے یا نہیں؟

تمہارے نزدیک سلف صالحین یعنی انبیاء صدیقین اور شہداء اولیاء اللہ کا توسل بھی جائز ہے یا ناجائز؟

### جواب

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء، صلحاء و اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی حیات میں یا بعد وفات، بایں طور کہ کہے یا اللہ میں بوسیله فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں اسی جیسے اور کلمات کہے چنانچہ



غير ذلك كما صرح به شيخنا ومولانا الشاه محمد اسحق الدهلوی ثم المهاجر المکی ثم بينه في فتاواه شيخنا ومولانا رشيد احمد الجنجوهی رحمة الله عليهما وفي هذا الزمان شائعة مستفیضة بایدی الناس وهذه المسئلة مذکورة على صفحہ ۹۳ من الجلد الاول منها فليراجع اليها من شاء.

### السؤال الخامس

ما قولكم في حياة النبي عليه الصلوة والسلام في قبره الشريف هل ذلك امر مخصوص به ام مثل سائر المومنين رحمة الله عليهم حيوته برزخية.

### الجواب

عندنا وعند مشائخنا حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف وحيوته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم وبجميع الانبياء صلوات الله عليهم والشهداء لبرزخية كما هي حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس كما

نص عليه العلامة السيوطی في رسالته "انباء الاذكياء بحياة الانبياء" حيث قال قال الشيخ تقى الدين السبكي حياة الانبياء و الشهداء في القبر كحيوتهم في الدنيا ويشهد له صلوة موسى عليه السلام في قبره فان الصلوة تستدعي جسدا حيا الى اخر ما قال فثبت بهذا ان حيوته دنيوية برزخية لكونها في عالم البرزخ ولشيخنا شمس الاسلام والدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز في هذه المبحث رسالة مستقلة دقيقة الماخذ بديعة المسلك لم ير مثلها قد طبعت وشاعت في الناس و اسمها "آب حيات" اى ماء الحيوۃ.

### السؤال السادس

هل للداعي في المسجد النبوي ان يجعل وجهه الى القبر المنيف ويستل من المولى الجليل متوسلا بنبيه الفخيم النبيل.

### الجواب

اختلف الفقهاء في ذلك كما ذكره الملا على القارى رحمه الله تعالى في المسلك والمنقسط فقال ثم اعلم

رساله "انباء الاذكياء بحياة الانبياء" میں بتصریح لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا ہے کہ انبیاء و شہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسی دنیا میں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے ارنج۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد ﷺ کی حیات دنیوی ہے اور اس معنی کر برزخی بھی ہے کہ عام برزخ میں حاصل ہے اور ہمارے شیخ مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کا اس بحث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے نہایت دقیق اور انوکھے طرز کا بے مثل، جو طبع ہو کر لوگوں میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کا نام "آب حیات" ہے۔

### چھٹا سوال

کیا جائز ہے مسجد نبوی میں دعا کرنے والے کو یہ صورت کہ قبر شریف کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور حضرت محمد ﷺ کا واسطہ دے کر حق تعالیٰ سے دعا مانگے۔

### جواب

اس میں فقہاء کا اختلاف ہے جیسا کہ ملا علی قاری نے مسلك منقسط میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں معلوم کرو کہ ہمارے بعض مشائخ ابوالیث اور ان

انہ ذکر بعض مشائخنا کابی اللیث ومن تبعہ کالکرمانی والسروجی انہ یقف الزائر مستقبل القبلة کذا رواہ الحسن . عن ابی حنیفة رضی اللہ عنہما ثم نقل عن ابن الہمام بان ما نقل عن ابی اللیث مردود بما روی ابو حنیفة عن ابی عمر رضی اللہ عنہ انہ قال من السنة ان تاتی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتستقبل القبر بوجهک ثم تقول السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ ثم ایدہ بروایة اخرى اخر جہا مجد الدین اللغوی عن ابن المبارک قال سمعت ابا حنیفة یقول قدم ابو ایوب السختیانی وانا بالمدينة فقلت لانظرن ما یصنع فجعل ظهرہ ممایلی القبلة ووجہہ ممایلی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبکی غیر متباک فقام مقام فقیہ ثم قال العلامة القاری بعد نقلہ وفیہ تنبیہ علی ان هذا هو مختار الامام بعد ما کان مترددا فی مقام المرام ثم الجمع بین الروایتین ممکن الخ کلام الشریف فظہر بہذا انہ یجوز کلا الا مرین لکن المختار ان یستقبل وقت الزيارة ممایلی وجہہ

کے پیرو کرمانی و سروجی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ زیارت کرنے والے کو قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے جیسا کہ امام حسن نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس کے بعد ابن ہمام سے نقل کیا ہے کہ ابو الیث کی روایت نامقبول ہے۔ اس لیے کہ امام ابوحنیفہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب تم قبر شریف پر حاضر ہو تو قبر مطہر کی طرف منہ کر کے اس طرح کہو ”آپ پر سلام نازل ہوا ہے نبی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات نازل ہوں پھر اس کی تائید میں دوسری روایت لائے ہیں جس کو مجد الدین لغوی نے ابن المبارک سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے امام ابوحنیفہ کو اس طرح فرماتے سنا کہ جب ابوایوب سختیانی مدینہ منورہ میں آئے تو میں وہیں تھا۔ میں نے کہا، میں ضرور دیکھوں گا یہ کیا کرتے ہیں۔ سو انہوں نے قبلہ کی طرف پشت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف اپنا منہ کیا اور بلا تصنع روئے تو بڑے فقیہ کی طرح قیام کیا پھر اس کو نقل کر کے علامہ قاری فرماتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہی صورت امام صاحب کی پسند کردہ ہے۔ ہاں پہلے ان کو تردد تھا۔ پھر علامہ نے یہ بھی کہا کہ دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے الخ۔ غرض اس سے ظاہر ہو گیا کہ جائز دونوں صورتیں ہیں مگر اولیٰ یہی ہے کہ زیارت کے وقت چہرہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے اور یہی ہمارے

الشریف صلی اللہ علیہ وسلم و هو الماخوذ بہ عندنا وعلیہ عملنا و عمل مشائخنا وھكذا الحکم فی الدعاء کما روی عن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ لما سالہ بعض الخلفاء وقد صرح بہ مولانا الجنجوحی رحمة اللہ علیہ فی رسالته ” زبدة المناسک“ واما مسألة التوسل فقد مرت فی نمرۃ ۳، ۴، ص ۶

نزدیک معتبر ہے اور اسی پر ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عمل ہے اور یہی حکم دعائے مانگنے کا ہے جیسا کہ امام مالک سے مروی ہے جب کہ ان کے کسی خلیفہ نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تھا اور اس کی تصریح مولانا گنگوہی اپنے رسالہ ”زبدۃ المناسک“ میں کر چکے ہیں اور توسل کا مسئلہ بھی صفحہ ۶، نمبر ۳، ۴ میں گزر چکا ہے۔

### السؤال السابع

ماقولکم فی تکثیر الصلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقرآۃ دلائل الخیرات والاوراد.

### الجواب

یستحب عندنا تکثیر الصلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وھو من ارجی الطاعات واحب المندوبات سواء کان بقراءة الدلائل والاوراد الصلوتیة المؤلفۃ فی ذلک او بغیرھا ولكن الا فضل عندنا ما صح بلفظہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو صلی بغیر ما ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یخل عن الفضل و یستحق بشارۃ من صلی علی صلوة صلی اللہ علیہ عشرا

### ساتواں سوال

کیا فرماتے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے اور دلائل الخیرات اور دیگر اوراد کے پڑھنے کی بابت؟

### جواب

ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت مستحب اور نہایت موجب اجر و ثواب طاعت ہے خواہ دلائل الخیرات پڑھ کر ہو یا درود شریف کے دیگر رسائل مؤلفہ کی تلاوت سے ہو، لیکن افضل ہمارے نزدیک وہ درود ہے جس کے لفظ بھی حضرت سے منقول ہیں گو غیر منقول کا پڑھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں اور اس بشارت کا مستحق ہو ہی جائے گا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا۔ حق تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ خود ہمارے شیخ حضرت مولانا گنگوہی قدس

و كان شيخنا العلامة الجنجوهي يقرء الدلائل وكذلك المشائخ الاخر من ساداتنا وقد كتب في ارشاداته مولانا و مرشدنا قطب العالم حضرة الحاج امداد الله قدس الله سره العزيز و امراضحابه بان يحزبوه و كانوا يروون الدلائل رواية و كان يجيز اصحابه بالدلائل مولانا الجنجوهي رحمة الله عليه.

## السؤال الثامن والتاسع والعاشر

هل يصح لرجل ان يقلد احدا من الائمة الاربعة في جميع الاصول والفروع ام لا وعلى تقدير الصحة هل هو مستحب ام واجب ومن تقلدون من الائمة فروعاً واصولاً

## الجواب

لا بد للرجل في هذا الزمان ان يقلد احدا من الائمة الاربعة رضی اللہ تعالیٰ عنہم بل يجب فانا جربنا كثيرا ان مال ترك تقليد الائمة و اتباع رای نفسه وهو السقوط في حفرة الالحاد و الذنقة اعاذنا الله منها ولاجل ذلك نحن و مشائخنا

مقلدون في الاصول والفروع لامام المسلمين ابى حنيفة رضی اللہ عنہ اما تنا الله عليه وحشرنا في زمرة و لمشائخنا في ذلك تصانيف عديدة شاعت واشتهرت في الافاق.

## السؤال الحادي عشر

وهل يجوز عندكم الاشتغال باشغال الصوفية وبيعتهم وهل تقولون بصحة وصول الفيوض الباطنية عن صدور الاكابر و قبورهم وهل يستفيد اهل السلوك من روحانية المشائخ الاجله ام لا؟

## الجواب

يستحب عندنا اذا فرغ الانسان من تصحيح العقائد وتحصيل المسائل الضرورية من الشرع ان يبايع شيخا راسخ القدم في الشريعة زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة قد قطع عقبات النفس و تمرن في المنجيات وتبتل عن المهكات كاملا مكملا ويضع يده في يده ويحبس نظره في نظره ويشغل باشغال الصوفية من الذكرو الفكر والفناء الكلي فيه ويكتسب النسبة التي هي النعمة العظمى

## الجواب

اهو حنيفة رضی اللہ عنہ کے مقلد ہیں۔ خدا کرے اسی پر ہماری موت ہو، اور اسی زمرہ میں ہمارا حشر ہو، اور اس بحث میں ہمارے مشائخ کی بہترین تصانیف دنیا میں مشتمل و مشائخ ہو چکی ہیں۔

کیا صوفیہ کے اشغال میں مشغول اور ان سے بیعت ہونا تمہارے نزدیک جائز اور اکابر کے سینہ اور قبر کے باطنی فیضان پہنچنے کے تم قائل ہو یا نہیں اور مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں؟

## آٹھواں، نواں اور دسواں سوال

تمام اصول وفروع میں چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کا مقلد بن جانا درست ہے یا نہیں؟ اور اگر درست ہے تو مستحب ہے یا واجب اور تم کس امام کے مقلد ہو؟

## جواب

اس زمانہ میں نہایت ضروری ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے بلکہ واجب ہے کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ائمہ کی تقلید چھوڑنے اور اپنے نفس و ہوا کے اتباع کرنے کا انجام الحاد و زندقہ کے گڑھے میں جا گرنا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے اور بایں وجہ ہم اور ہمارے مشائخ تمام اصول وفروع میں امام المسلمین

والغنيمة الكبرى وهي المعبر عنها  
بلسان الشرع بالاحسان واما من لم  
يتيسر له ذلك ولم يقدر له  
ما هنالك فيكفيه الانسلاک  
بسلكهم و الانخراط في حزبهم  
فقد قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم المرء مع من احب اولئك  
قوم لا يشقى جليسهم وبحمد الله  
تعالى وحسن انعامه نحن و مشائخنا  
قد دخلوا في بيعتهم واشتغلوا  
باشغالهم وقصدوا للارشاد و التلقين  
والحمد لله على ذلك واما الا  
ستفادة من روحانية المشائخ الاجلة  
و وصول الفيوض الباطنية من  
صدورهم او قبورهم فيصح على  
الطريقة المعروفة في اهلها و  
خواصها لا بما هو شائع في العوام.

### السؤال الثاني عشر

قد كان محمد بن عبد الوهاب  
النجدي يستحل دماء المسلمين  
واموالهم واعرضهم وكان ينسب  
الناس كلهم الى الشرك ويسب  
السلف فكيف ترون ذلك وهل  
تجوزون تكفير السلف والمسلمين

ہے جس کو شرع میں احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا  
ہے اور جس کو یہ نعمت میسر نہ ہو اور یہاں تک نہ پہنچ  
سکے اس کو بزرگوں کے سلسلہ میں شامل ہو جانا ہی  
کافی ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ  
آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اسے محبت  
ہو۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا محروم  
نہیں رہ سکتا اور بجز اللہ ہم اور ہمارے مشائخ ان  
حضرات کی بیعت میں داخل اور ان کے اشتغال  
کے شغل اور ارشاد و تلقین کے درپے رہے ہیں  
والحمد لله على ذلك، اب رہا مشائخ کی  
روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں  
سے باطنی فیوض پہنچنا، سو بے شک صحیح ہے مگر اس  
طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے نہ  
اس طرز سے جو عوام میں رائج ہے۔

### بارہواں سوال

محمد بن عبد الوهاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں  
کے خون اور ان کے مال و آہ برو کو اور تمام لوگوں کو  
منسوب کرتا تھا شرک کی جانب اور سلف کی شان  
میں گستاخی کرتا تھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا  
راے ہے اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز

واهل القبلة ام كيف مشربكم.

سمجھتے ہو، یا کیا مشرب ہے؟

### الجواب

الحکم عندنا فیہم ما قال صاحب  
الدرالمختار و خوارج ہم قوم لهم  
منعة خرجوا عليه بتاويل يرون انه  
على باطل كفر او معصية توجب قتاله  
بتاويلهم يستحلون دمانا و اموالنا و  
يسبون نسانا الى ان قال و حكمهم  
حكم البغاة ثم قال و انما لم  
نكفرهم لكونه عن تاويل و ان كان  
باطلا. و قال الشامي في حاشيه كما  
وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب  
الذين خرجوا من نجد و تغلبوا على  
الحرمين و كانوا ينتحلون مذهب  
الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم  
المسلمون و ان من خالف اعتقادهم  
مشركون و استباحوا بذلك قتل اهل  
السنة و قتل علمائهم حتى كسر الله  
شوكتهم ثم اقول ليس هو و لا احد  
من اتباعه و شيعته من مشائخنا في  
سلسلة من سلاسل العلم من الفقه  
و الحديث و التفسير و التصوف و اما  
استحلال دماء المسلمين و اموالهم  
و اعراضهم فاما ان يكون بغير حق او

### جواب

ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب  
درمختار نے فرمایا ہے اور خوارج ایک جماعت ہے  
شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی  
تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت  
کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے اس  
تاویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے  
اور ہماری عورتوں کو قید بناتے ہیں۔ آگے فرماتے  
ہیں، ان کا حکم باغیوں کا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ  
ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل  
تاویل سے ہے اگرچہ باطل ہی سہی اور علامہ  
شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا ہے ”جیسا کہ  
ہمارے زمانے میں عبد الوهاب کے تابعین سے  
سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب  
ہوئے اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے تھے مگر ان کا  
عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے  
عقیدہ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے اور اسی بنا پر  
انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح  
سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی  
شوکت توڑ دی۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ  
عبد الوهاب اور اس کا تابع کوئی شخص بھی ہمارے  
کسی سلسلہ مشائخ میں نہیں، نہ تفسیر وفقہ و حدیث  
کے علمی سلسلہ میں نہ تصوف میں۔ اب رہا

بحق فان كان بغیر حق فاما ان يكون من غير تاویل فكفرو خروج عن الاسلام و ان كان بتاویل. لا يسوغ في الشرع ففسق واما ان كان بحق فجاز بل واجب واما تكفير السلف من المسلمين فحاشا ان نکفر احدا منهم بل هو عندنا رفض وابتداع في الدين و تكفير اهل القبلة من المبتدعين فلا نکفرهم ما لم ينكروا حکما ضروريا من ضروريات الدين فاذا ثبت انكار امر ضروري من الدين نکفرهم و نحتاط فيه وهذا دأبنا و دأب مشائخنا رحمهم الله تعالى عليهم.

مسلمانوں کی جان و مال و آبرو کا حلال سمجھنا، سو یہ ناحق ہوگا یا حق۔ پھر اگر ناحق ہے تو بلا تاویل ہوگا جو کفر اور خروج از اسلام ہے۔ اور اگر ایسی تاویل سے ہے جو شرعاً جائز نہیں تو فسق ہے، اور اگر بحق ہو تو جائز بلکہ واجب ہے۔ باقی رہا سلف اہل اسلام کو کافر کہنا سو حاشا ہم ان میں سے کسی کو کافر کہتے یا سمجھتے ہوں بلکہ یہ فعل ہمارے نزدیک رفض اور دین میں اختراع ہے۔ ہم تو ان بدعتیوں کو بھی جو اہل قبلہ ہیں جب تک دین کے کسی ضروری حکم کا انکار نہ کریں، کافر نہیں کہتے۔ ہاں جس وقت دین کے کسی ضروری امر کا انکار ثابت ہو جائے گا تو کافر سمجھیں گے اور احتیاط کریں گے۔ یہی طریقہ ہمارا اور ہمارے جملہ مشائخ رحمہم اللہ کا ہے۔

### السؤال الثالث عشر والرابع عشر

ما قولكم في امثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هل تجوزون اثبات جهة ومكان للباري تعالى ام كيف راىكم فيه؟

#### الجواب

قولنا في امثال تلك الايات انا نؤمن بها و لا يقال كيف و نؤمن بالله

سبحانه وتعالى متعال ومنزه عن صفات المخلوقين وعن سمات النقص والحدوث كما هو رای قد مائنا. واما ما قال المتأخرون من ائمتنا في تلك الايات يا ولونها بتاويلات صحيحة سائغة في اللغة و الشرع بانه يمكن ان يكون المراد من الاستواء الاستيلاء و من اليد القدرة الى غير ذلك تقريبا الى افهام القاصرين فحق ايضا عندنا و اما الجهة والمكان فلا نجوز اثباتهما له تعالى ونقول انه تعالى منزه و متعال عنهما و عن جميع سمات الحدوث.

کرتے، یقیناً جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کے اوصاف سے منزہ اور نقص و حدوث کی علامات سے مبرا ہے جیسا کہ ہمارے متقدمین کی رائے ہے اور ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں جو صحیح اور لغت شرع کے اعتبار سے جائز تاویل میں فرمائی ہیں تاکہ کم فہم سمجھ لیں مثلاً یہ کہ ممکن ہے استواء سے مراد غلبہ ہو اور ہاتھ سے مراد قدرت، تو یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے۔ البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکانیت اور جملہ علامات حدوث سے منزہ و عالی ہے۔

### السؤال الخامس عشر

هل ترون احدا افضل من النبي صلى الله عليه وسلم من الكائنات؟

#### الجواب

اعتقادنا واعتقاد مشائخنا ان سيدنا و مولانا حبيبنا و شفيعنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلائق كافة و خيرهم عند الله تعالى لا يساويه احد بل ولا يدانيه صلى الله عليه وسلم في القرب من

### پندرھواں سوال

کیا تمہاری رائے یہ ہے کہ مخلوق میں سے جناب رسول اللہ ﷺ سے بھی کوئی افضل ہے؟

#### جواب

ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ ﷺ تمامی مخلوق سے افضل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قرب و منزلت میں کوئی شخص آپ کے برابر تو کیا، قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ﷺ سردار ہیں جملہ انبیاء

اللہ تعالیٰ و المنزلة الرفیعة عنده و هو سید الانبیاء والمرسلین و خاتم الاصفیاء والنبیین كما ثبت بالنصوص وهو الذی نعتقه و ندین اللہ تعالیٰ به و قد صرح به مشائخنا فی غیر ما تصنیف.

### السؤال السادس عشر

اتجوزون وجود نبی بعد النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام وهو خاتم النبیین وقد تواتر معنی قوله علیہ السلام لا نبی بعدی و امثاله و علیہ انعقد الاجماع و کیف رایکم فیمن جوز وقوع ذلك مع وجود هذه النصوص وهل قال احد منكم او من اکابرکم ذلك.

### الجواب

اعتقادنا و اعتقاد مشائخنا ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعده كما قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین و ثبت باحادیث کثیرة متواترة المعنی و باجماع الامم و حاشا ان یقول احد منا خلاف

اور رسل کے، اور خاتم ہیں سارے برگزیدہ گروہ کے جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی دین و ایمان۔ اسی کی تصریح ہمارے مشائخ بہتیری تصانیف میں کر چکے ہیں۔

### سولہواں سوال

کیا کسی نبی کا وجود جائز سمجھتے ہو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور معنا درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے آپ کا یہ ارشاد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اس پر اجماع امت منعقد ہو چکا ہے اور جو شخص باوجود ان نصوص کے کسی نبی کا وقوع جائز سمجھے اس کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے اور کیا تم میں سے یا تمہارے اکابر میں سے کسی نے ایسا کہا ہے؟

### جواب

ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار و آقا اور پیارے شفیع، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ لیکن محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جو معنا حد تواتر تک پہنچ گئیں اور نیز اجماع امت سے،

ذالک فانہ من انکر ذالک فهو عندنا کافر لانه منکر للنص القطعی الصریح نعم شیخنا و مولانا سید الاذکیاء المدققین المولوی محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ اتی بدقة نظره تدقیقا بدیعا اکمل خاتمیتہ علی وجه الکمال و اتمہا علی وجه التمام فانہ رحمہ اللہ تعالیٰ قال فی رسالته المسماة ” بتحذیر الناس ” ما حاصلہ ان الخاتمیة جنس تحتہ نوعان إحدہما خاتمیة زمانیة وهو ان یکون زمان نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم متاخرا من زمان نبوة جمیع الانبیاء و یکون خاتما النبوتہم بالزمان والثانی خاتمیة ذاتیة وھی ان یکون نفس نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم ختمت بها و انتہت الیہا نبوة جمیع الانبیاء و كما انه صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالزمان کذلک هو صلعم خاتم النبیین بالذات فان کل ما بالعرض یختم علی ما بالذات و ینتہی الیہ ولا تتعداہ ولما کان نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذات و نبوة سائر الانبیاء بالعرض لان نبوتہم علیہم السلام بواسطة نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الفرد الاکمل الاوحد الابدل قطب دائرة النبوة والرسالة وواسطة

سوحاشا کہ ہم میں سے کوئی اس کے خلاف کہے کیونکہ جو اس کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے اس لیے کہ منکر ہے نص صریح قطعی کا بلکہ ہمارے شیخ و مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دقت نظر سے عجیب و دقیق مضمون بیان فرما کر آپ کی خاتمیت کو کامل و تام ظاہر فرمایا ہے جو کچھ مولانا نے اپنے رسالہ ” تحذیر الناس ” میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کے تحت میں دو نوع داخل ہیں:۔ ایک خاتمیت باعتبار زمانہ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے زمانہ سے متاخر ہے اور آپ بحیثیت زمانہ کے سب کی نبوت کے خاتم ہیں، اور دوسری نوع خاتمیت باعتبار ذات، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کی نبوت ہے جس پر تمام انبیاء کی نبوت ختم و ختمی ہوئی اور جیسا کہ آپ خاتم النبیین ہیں باعتبار زمانہ اسی طرح آپ خاتم النبیین ہیں بالذات کیونکہ ہر وہ شے جو بالعرض ہو ختم ہوتی ہے اس پر جو بالذات ہو اس سے آگے سلسلہ نہیں چلتا اور جب کہ آپ کی نبوت بالذات ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت بالعرض اس لیے کہ سارے انبیاء کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واسطے سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرد اکمل و یگانہ اور دائرہ رسالت و نبوت کے مرکز اور عقد نبوت کے واسطے ہیں پس

عقدھا فهو خاتم النبیین ذاتا و زمانا و ليس خاتمية صلى الله عليه وسلم منحصره في الخاتمية الزمانية فانه ليس كبيرة فضل ولا زيادة رفعة ان يكون زمانه متاخرا من زمان الانبياء قبله بل السيادة الكاملة والرفعة البالغة والمجد الباهر والفخر الزاهر تبلغ غايتها اذا كان خاتميتها صلى الله عليه وسلم ذاتا و زمانا و اما اذا اقتصر على الخاتمية الزمانية فلا تبلغ سيادته و رفعته صلى الله عليه وسلم كمالها ولا يحصل له الفضل بكليته و جامعيتها و هذا تدقيق منه رحمه الله تعالى ظهر له في شفات في اعظام شانہ و اجلال برهانه و تفضيله و تبجيله صلى الله عليه وسلم كما حققه المحققون من ساداتنا العلماء كالشيخ الاكبر و التقى السبكي و قطب العالم الشيخ عبدالقدوس الجنجوهي رحمهم الله تعالى لم يحرم حول سرادقات ساحته فيما نظن و نرى ذهن كثير من العلماء المتقدمين و الاذكياء المتبحرين و هو عند المبتدعين من اهل الهند كفر و ضلال و يوسوسون الى اتباعهم و اوليائهم انه انكار لخاتميته صلى الله عليه وسلم. فهيهات و هيهات و لعمرى انه لا فرى القرى و اعظم زور

آپ خاتم النبیین ہوئے ذاتاً بھی اور زماناً بھی اور آپ ﷺ کی خاتمیت صرف زمانہ کے اعتبار سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ کوئی بڑی فضیلت نہیں کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابقین کے زمانہ سے پیچھے ہے بلکہ کامل سرداری اور غایت رفعت اور انتہاء درجہ کا شرف اسی وقت ثابت ہوگا جب کہ آپ کی خاتمیت ذات اور زمانہ دونوں اعتبار سے ہو ورنہ محض زمانہ کے اعتبار سے خاتم الانبیاء ہونے سے آپ کی سیادت و رفعت نہ مرتبہ کمال کو پہنچے گی اور نہ آپ کو جامعیت و فضل کلی کا شرف حاصل ہوگا اور یہ دقیق مضمون جناب رسول اللہ ﷺ کی جلالت و رفعت شان و عظمت کے بیان میں مولانا کا مکاشفہ ہے۔ ہمارے خیال میں علمائے متقدمین اور اذکیاء متبحرین میں سے کسی کا ذہن اس میدان کے نواح تک بھی نہیں گھوما۔ ہاں ہندوستان کے بدعتیوں کے نزدیک کفر و ضلال بن گیا۔ یہ مبتدعین اپنے چیلوں اور تابعین کو یہ وسوسہ دلاتے ہیں کہ یہ تو جناب رسول اللہ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے۔ افسوس صد افسوس! قسم ہے اپنی زندگی کی کہ ایسا کہنا پرلے درجہ کا افتراء ہے اور بڑا جھوٹ و بہتان ہے، جس کا باعث محض کینہ و عداوت و بغض ہے۔ اہل اللہ اور اس کے خاص بندوں کے ساتھ اور سنت اللہ اسی طرح جاری ہے انبیاء اور اولیاء میں۔

و بہتان بلا امتراء ما حملهم على ذلك الا الحقد و الشحنةاء و الحسد و البغضاء لا هل الله تعالى و خواص عبادہ و كذلك جرت السنة الا لهية في انبيائه و اوليائه.

### السؤال السابع عشر

هل تقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل علينا الا كفضل الاخ الاكبر على الاخ الاصغر لا غير و هل كتب احد منكم هذا المضمون في كتاب؟

### الجواب

ليس احد منا ولا من اسلافنا الكرام معتقدا بهذا البتة ولا نظن شخصا من ضعفاء الايمان ايضا يتفوه بمثل هذا الخرافات و من يقل ان النبي عليه السلام ليس له فضل علينا الا كما يفضل الاخ الاكبر على الاصغر فنعتقد في حقه انه خارج عن دائرة الايمان وقد صرحت تصانيف جميع الاكابر من اسلافنا بخلاف ذلك وقد بينوا و صرحوا و حرروا و جوه فضائله و احساناته عليه السلام علينا معشر الامة بوجوه عديدة بحيث لا

### سترهواں سوال

کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو بس ہم پر ایسی فضیلت ہے جیسے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے اور کیا تم میں سے کسی نے کسی کتاب میں یہ مضمون لکھا ہے؟

### جواب

ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الايمان بھی ایسی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا اور جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم پر بس اتنی ہی فضیلت ہے، جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے اور ہمارے تمام گزشتہ اکابر کی تصنیفات میں اس عقیدہ داہیہ کا خلاف مصرح ہے اور وہ حضرات جناب رسول اللہ ﷺ کے احسانات اور وجوہ فضائل تمام امت پر تبصرح اس قدر بیان کر چکے اور لکھ چکے ہیں کہ سب تو کیا ان میں سے کچھ بھی

يمكن اثبات مثل بعض تلك الوجوه لشخص من الخلائق فضلا عن جملتها وان افتري احد بمثل هذه الخرافات الواهية علينا او على اسلافنا فلا اصل له ولا ينبغي ان يلتفت اليه اصلا فان كونه عليه السلام افضل البشر قاطبة واشرف الخلق كافة وسيادته عليه السلام على المرسلين جميعا وامامته النبیین من الامور القطعية التي لا يمكن لادنى مسلم ان يتردد فيه اصلا ومع هذا ان نسب الينا احد من امثال هذه الخرافات فليبين محله من تصانيفنا حتى نظهر على كل منصف فيهم جهالته وسوء فهمه مع الحادة وسوء تدبيره بحوله تعالى وقوته القوية.

### السؤال الثامن عشر

هل تقولون ان علم النبي عليه السلام مقتصر على الاحكام الشرعية فقط ام اعطى علوم ما متعلقة بالذات والصفات و الافعال للباري عز اسمه والاسرار الخفية والحكم الالهية وغير ذلك مما لم يصل الي سرادقات عمله احد من الخلائق كائنا من كان.

### الجواب

نقول باللسان ونعتقد بالجنان ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق قاطبة بالعلوم المتعلقة بالذات و الصفات و التشريعات من الاحكام العملية و الحكم النظرية والحقائق الحقة و الاسرار الخفية وغيرها من العلوم مالم يصل الي سرادقات ساحته احد من الخلائق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولقد اعطى علم الاولين والاخرين وكان فضل الله عليه عظيما ولكن لا يلزم من ذلك علم كل جزئي جزئي من الامور الحادثة في كل ان من اوانه الزمان حتى يضر غيبوبة بعضها عن مشاهدته الشريفة و معرفة المنيفة باعلميته عليه السلام و وسعته في العلوم و فضله في المعارف على كافة الانام و ان اطلع عليها بعض من سواه من الخلائق والعباد كما لم يضر باعلمية سليمان عليه السلام غيبوبة ما اطلع عليه الهدد من

### جواب

هم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد اس امر کے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ ﷺ کو تمامی مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں جن کو ذات و صفات اور تشریحات یعنی احکام عملیہ و حکم نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار خفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہ مقرب فرشتہ اور نہ نبی رسول اور بے شک آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا ہوا اور آپ پر حق تعالیٰ کا فضل عظیم ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کو زمانہ کی ہر آن میں حادث و واقع ہونے والے واقعات میں سے ہر ہر جزئی کی اطلاع و حکم ہو کہ اگر کوئی واقعہ آپ کے مشاہدہ شریفہ سے غائب رہے تو آپ کے علم اور معارف میں ساری مخلوق سے افضل ہونے اور وسعت علمی میں نقص آجائے اگرچہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس جزئی سے آگاہ ہو جیسا کہ سلیمان علیہ السلام پر وہ واقعہ عجیبہ مخفی رہا کہ جس سے ہدہد کو آگاہی ہوئی۔ اس سے سلیمان علیہ السلام کے علم ہونے میں نقصان نہیں آیا۔ چنانچہ ہدہد کہتی ہے کہ میں نے ایسی خبر پائی جس کی آپ کو اطلاع نہیں اور شہر سبائ میں سے میں ایک سچی خبر لے کر آئی ہوں۔



عجائب الحوادث حيث يقول في القرآن قال انى احطت بما لم تحط به وجنتك من سبأ بنياً يقين.

### السؤال التاسع عشر

اترون ان ابليس اللعين اعلم من سيد الكائنات عليه السلام و اوسع علمانه مطلقاً و هل كتبتم ذلك في تصنيف ما تحكمون على من اعتقد ذلك.

### الجواب

قد سبق منا تحرير هذه المسئلة ان النبى عليه السلام اعلم الخلق على الاطلاق بالعلوم والحكم و الاسرار وغيرها من ملكوت الافاق ونتيقن ان من قال ان فلانا اعلم من النبى عليه السلام فقد كفر و قد افتي مشائخنا بتكفير من قال ان ابليس اللعين اعلم من النبى عليه السلام فكيف يمكن ان توجد هذه المسئلة فى تاليف مامن كتبنا غير انه غيبوبة بعض الحوادث الجزئية الحقيرة عن النبى عليه السلام لعدم التفاته اليه لا تورث نقصاً ما فى اعلمته عليه السلام بعد ما ثبت انه

### انيسواو سوال

كيا تمہاری یہ رائے ہے کہ ملعون شیطان کا علم سید الكائنات عليه الصلوة والسلام کے علم سے زیادہ اور مطلقاً وسیع تر ہے اور کیا یہ مضمون تم نے اپنی کسی تصنیف میں لکھا ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا حکم کیا ہے؟

### جواب

اس مسئلہ کو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا علم حکم و اسرار وغیرہ کے متعلق مطلقاً تمامی مخلوقات سے زیادہ ہے اور ہمارا یقین ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نبی کریم علیہ السلام سے اعلم ہے، وہ کافر ہے اور ہمارے حضرات اس شخص کے کافر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں جو یوں کہے کہ شیطان ملعون کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ پھر بھلا ہماری کسی تصنیف میں یہ مسئلہ کہاں پایا جاسکتا ہے۔ ہاں کسی جزئی حادثہ حقیر کا حضرت کو اس لیے معلوم نہ ہونا کہ آپ نے اس کی جانب توجہ نہیں فرمائی آپ کے علم ہونے میں کسی قسم کا نقصان نہیں پیدا کر سکتا جب کہ ثابت ہو چکا

اعلم الخلق بالعلوم الشريفة اللاتقة بمنصبه الاعلى كما لا يورث الاطلاع على اكثر تلك الحوادث الحقيرة لشدة التفات ابليس اليها شرفاً وكمالا علميا فيه فانه ليس عليها مدار الفضل و الكمال ومن ههنا لا يصح ان يقال ان ابليس اعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يصح ان يقال لصبى علم بعض الجزئيات انه اعلم من عالم متبحر محقق فى العلوم والفنون الذى غابت عنه تلك الجزئيات ولقد تلونا عليك قصة الهدهد مع سليمان على نبينا وعليه السلام و قوله انى احطت بما لم تحط به و دواوين الحديث ودفاتر التفاسير مشحونة بنظائرها المتكاثرة المشتهرة بين الانام وقد اتفق الحكماء على ان افلاطون و جالينوس و امثالهما من اعلم الاطباء بكيفيات الادوية و احوالها مع علمهم ان ديد ان النجاسة اعرف باحوال النجاسة و ذوقها و كيفياتها فلم تضر عدم معرفة افلاطون و جالينوس هذه الاحوال

کہ آپ ان شریف علوم میں جو آپ کے منصب اعلیٰ کے مناسب ہیں ساری مخلوق سے بڑھے ہوئے ہیں جیسا کہ شیطان کو بہتیرے حقیر حادثوں کی شدت التفات کے سبب اطلاع مل جانے سے اس مردود میں کوئی شرافت اور علمی کمال حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان پر فضل و کمال کا مدار نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوں کہنا کہ شیطان کا علم سیدنا رسول اللہ ﷺ کے علم سے زیادہ ہے ہرگز صحیح نہیں۔ جیسا کہ کسی ایسے بچے کو جسے کسی جزئی کی اطلاع ہو گئی ہے یوں کہنا صحیح نہیں کہ فلاں بچہ کا علم اس تبحر و محقق مولوی سے زیادہ ہے جس کو جملہ علوم و فنون معلوم ہیں مگر یہ جزئی معلوم نہیں اور ہم ہد ہد کا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا قصہ بتا چکے ہیں اور یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ مجھے وہ اطلاع ہے جو آپ کو نہیں اور کتب حدیث و تفسیر اس قسم کی مثالوں سے لبریز ہیں نیز حکماء کا اس پر اتفاق ہے کہ افلاطون و جالینوس وغیرہ بڑے طبیب ہیں جن کو دواؤں کی کیفیت و حالات کا بہت زیادہ علم ہے۔ حالانکہ یہ بھی معلوم ہے کہ نجاست کے کیڑے نجاست کی حالتوں اور مزے اور کیفیتوں سے زیادہ واقف ہیں تو افلاطون و جالینوس کا ان ردی حالت سے ناواقف ہونا ان کے علم ہونے

البراهین القاطعة لعروق الاغبياء  
المارقين القاصمة لاعناق الدجلة  
المفترين فلم يكن بحثنا فيه الا عن  
بعض الجزئيات المستحدثة ومن اجل  
ذلك اتينا فيه بلفظ الاشارة حتى تدل  
ان المقصود بالنفي والاثبات هنالك  
تلك الجزئيات لا غير لكن  
المفسدين يحرفون الكلام ولا  
يخافون محاسبة الملك العلام وانا  
جازمون ان من قال ان فلانا اعلم من  
النبي عليه السلام فهو كافر كما صرح  
به غير واحد من علمائنا الكرام ومن  
افتري علينا بغير ما ذكرناه فعليه  
بالبرهان خائفا عن مناقشة الملك  
الديان والله على ما نقول وكيل.

### السؤال العشرون

اتعتقدون ان علم النبي صلى الله  
عليه وسلم يساوي علم زيد و  
بكر وبهائم ام تتبرؤون عن امثال هذا  
وهل كتب الشيخ اشرف علي  
التهانوي في رسالته حفظ الايمان  
هذا المضمون ام لا وبم تحكمون  
علي من اعتقد ذلك.

### بیسواں سوال

کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ﷺ کا علم زید و بکر اور  
چوپاؤں کے علم کے برابر ہے یا اس قسم کے  
خرافات سے تم بری ہو اور مولوی اشرف علی  
تھانوی نے اپنی رسالہ حفظ الايمان میں یہ مضمون  
لکھا ہے یا نہیں اور جو یہ عقیدہ رکھے اس کا حکم کیا  
ہے؟

الرديّة في اعلميتهما و لم يرض احد  
من العقلاء و الحمقى بان يقول ان  
الديد ان اعلم من افلاطون مع انها  
اوسع علما من افلاطون باحوال  
النجاسة و مبتدعة ديارنا يشتون للذات  
الشريفة النبوية عليها الف الف تحية  
وسلام جميع علوم الاسافل الازال  
والافاضل الاكابر قائلين انه عليه  
السلام لما كان افضل الخلق كافة  
فلايد ان يحتوى على علومهم  
جميعها كل جزئي جزئي و كلى كلى  
ونحن انكرنا اثبات هذا الا مر بهذا  
القياس الفاسد بغير نص من النصوص  
المعتدة بها الاترى ان كل مومن  
افضل واشرف من ابليس فيلزم على  
هذا القياس ان يكون كل شخص من  
احاد الامة حاويا على علوم ابليس و  
يلزم على ذلك ان يكون سليمان  
علي نبينا وعليه السلام عالما بما علمه  
الهدهد و ان يكون افلاطون  
وجالينوس عارفين بجميع معارف  
الديدان و اللوازم باطلة باسرها كما  
هو المشاهد و هذا خلاصة ما قلناه في

کو مضرت نہیں اور کوئی عقل مند بلکہ احمق بھی یہ کہنے پر  
راضی نہ ہوگا کہ کیڑوں کا علم افلاطون سے زیادہ  
ہے حالانکہ ان کا نجاست کے احوال سے افلاطون  
کی بہ نسبت زیادہ واقف ہونا یقینی امر ہے اور  
ہمارے ملک کے مبتدعین سرور کائنات ﷺ  
کے لیے تمام شریف و ادنیٰ و اعلیٰ و اسفل علوم ثابت  
کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جب آنحضرت  
ﷺ ساری مخلوق سے افضل ہیں، تو ضرور سب  
ہی کے علوم جزئی ہوں یا کلی، آپ کو معلوم ہوں  
گے اور ہم نے بغیر کسی معتبر نص کے محض اس فاسد  
قیاس کی بناء پر اس علم کلی و جزئی کے ثبوت کا انکار  
کیا۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ ہر مسلمان کو شیطان پر  
افضل و شرف حاصل ہے پس اس قیاس کی بنا پر  
لازم آئے گا کہ ہر امتی بھی شیطان کے ہتھکنڈوں  
سے آگاہ ہو اور لازم آئے گا کہ حضرت سلیمان  
علیہ السلام کو خبر ہو اس واقعہ کی جسے ہد ہد نے جانا۔  
اور افلاطون و جالینوس واقف ہوں کیڑوں کی تمام  
واقفیتوں سے اور سارے لازم باطل میں چنانچہ  
مشاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے قول کا خلاصہ ہے جو  
براہین قاطعہ میں بیان کیا ہے جس نے کند ذہن  
بدبینوں کی رگیں کاٹ دیں اور دجال و مفتری  
گروہ کی گردنیں توڑ دیں سو اس میں ہماری بحث  
صرف بعض حادثات جزئی میں تھی اور اسی لیے

## الجواب

اقول و هذا ايضا من افتراء المتبدعين و اكاذيبهم قد حرفوا معنى الكلام و اظهروا بحقدهم خلاف مراد الشيخ مدظله فقاتلهم الله انى يوفكون قال الشيخ العلامة التهانوى فى رسالته المسماة بحفظ الايمان و هى رسالة صغيرة اجاب فيها عن ثلاثة سئل عنها، الاولى منها فى السجدة التعظيمية للقبور و الثانية فى الطواف بالقبور و الثالثة فى اطلاق لفظ عالم الغيب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ ما حاصله انه لا يجوز هذا الاطلاق و ان كان بتاويل لكونه موهما بالشرك كما منع من اطلاق قولهم راعنا فى القران و من قولهم عبدى و امتى فى الحديث اخرجهم مسلم فى صحيحه فان الغيب المطلق فى الاطلاقات الشرعية مالم يقم عليه دليل و لا الى دركه و سيلة و سبيل فعلى هذا قال الله تعالى قل لا يعلم من فى السموت و الارض الغيب الا الله و لو كنت اعلم الغيب و غير ذلك من الايات و لو جوز ذلك

جواب

میں کہتا ہوں کہ یہ بھی مبتدعین کا ایک افتراء اور جھوٹ ہے کہ کلام کے معنی بدلے اور مولانا کی مراد کے خلاف ظاہر کیا۔ خدا انہیں ہلاک کرے، کہاں جاتے ہیں۔ علامہ تھانوی نے اپنے چھوٹے سے رسالہ حفظ الايمان میں تین سوالات کا جواب دیا ہے جو ان سے پوچھے گئے تھے۔ پہلا مسئلہ قبور کو تعظیمی سجدہ کی بابت ہے اور دوسرا قبور کے طواف میں اور تیسرا یہ کہ لفظ عالم الغيب کا اطلاق سيدنا رسول اللہ ﷺ پر جائز ہے یا نہیں؟ مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جائز نہیں گوتاویل ہی سے کیوں نہ ہو کیونکہ شرک کا وہم ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں صحابہ گو راعنا کہنے کی ممانعت اور مسلم کی حدیث میں غلام یا باندی کو عبدی اور امتی کہنے کی ممانعت ہے۔ بات یہ ہے کہ اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب مراد ہوتا ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس کے حصول کا کوئی وسیلہ و سبیل نہ ہو۔ اسی بناء پر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں جانتے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، غیب کو مگر اللہ۔ نیز ارشاد ہے، اگر میں غیب جانتا تو بہتری نیکی جمع کر لیتا، اور اگر کسی تاویل سے اطلاق کو جائز سمجھا جائے تو لازم آتا ہے کہ خالق، رازق، معبود، مالک و غیرہ ان صفات کا جو ذات باری کے ساتھ خاص ہیں اسی

بتاویل یلزم ان يجوز اطلاق الخالق و الرازق و المالك و المعبود و غيرها من صفات الله تعالى المختصة بذاته تعالى و تقدر على المخلوق بذلك التاويل و ايضا يلزم عليه ان يصح نفى اطلاق لفظ عالم الغيب عن الله تعالى بالتاويل الاخر فانه تعالى ليس عالم الغيب بالواسطة والعرض فهل ياذن فى نفيه عاقل متدين حاشا و كلا ثم لو صح هذا الاطلاق على ذاته المقدسة صلى الله عليه وسلم على قول السائل فنستفسر منه ماذا اراد بهذا الغيب هل اراد كل واحد من افراد الغيب او بعضه اى بعض كان فان اراد بعض الغيوب فلا اختصاص له بحضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم فان علم بعض الغيوب و ان كان قليلاً حاصل لزيد و عمرو بل لكل صبي و مجنون بل لجميع الحيوانات و البهائم لان كل واحد منهم يعلم شيئاً لا يعلم الاخر و يخفى عليه فلو جوز السائل اطلاق عالم الغيب على احد لعلمه بعض الغيوب يلزم عليه ان يجوز اطلاقه على سائر المذكورات و لو التزم ذلك لم يبق

تاویل سے مخلوق پر اطلاق صحیح ہو جائے نیز لازم آتا ہے کہ دوسری تاویل سے لفظ عالم الغيب کی نفی حق تعالیٰ سے ہو سکے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بالواسطہ اور بالعرض عالم الغيب نہیں ہے پس کیا اس نفی اطلاق کی کوئی دین دار اجازت دے سکتا ہے؟ حاشا و کلا، پھر یہ کہ حضرت کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا اطلاق اگر بقول سائل صحیح ہو تو ہم اسی سے دریافت کرتے ہیں کہ اس غیب سے مراد کیا ہے یعنی غیب کا ہر فرد یا بعض غیب کوئی کیوں نہ ہو۔ پس اگر بعض غیب مراد ہے تو رسالت مآب ﷺ کی تخصیص نہ رہی کیوں کہ بعض غیب کا علم اگر چہ تھوڑا سا ہو، زید و عمر بلکہ ہر بچہ اور دیوانہ بلکہ جملہ حیوانات اور چوپایوں کو بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہے کہ دوسرے کو نہیں ہے تو اگر سائل کسی پر لفظ عالم الغيب کا اطلاق بعض غیب کے جاننے کی وجہ سے جائز رکھتا ہے تو لازم آتا ہے کہ اس اطلاق کو مذکورہ بالا تمام حیوانات پر جائز سمجھے اور اگر سائل نے اس کو مان لیا تو پھر اطلاق کمالات نبوت میں سے نہ رہا کیوں کہ سب شریک ہو گئے اور اگر اس کو نہ مانے تو وجہ فرق پوچھی جائے گی اور وہ ہرگز بیان نہ ہو سکے گی۔ مولانا تھانوی کا کلام ختم ہوا۔ خدا تم پر رحم فرمائے! ذرا مولانا کا کلام ملاحظہ فرماؤ، بدعتیوں کے جھوٹ کا کہیں پتہ بھی نہ پاؤ گے، حاشا کہ کوئی

من کمالات النبوة لانه يشرك فيه سائرهم و لو لم يلتزم طولب بالفارق ولن يجد اليه سبيلا انتهى كلام الشيخ التهانوي فانظروا يرحمكم الله في كلام الشيخ لن تجدوا مما كذب المبتدعون من اثر فحاشا ان يدعى احد من المسلمين المساواة بين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم و علم زيد و بكر و بهائم بل الشيخ يحكم بطريق الالتزام على من يدعى جواز اطلاق علم الغيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بعض الغيوب انه يلزم عليه ان يجوز اطلاقه على جميع الناس و البهائم فاین هذا عن مساواة العلم التي يفترونها عليه فلعنة الله على الكاذبين. ونتيقن بان معتقد مساواة علم النبي عليه السلام مع زيد و بكر و بهائم ومجانين افر قطعاً وحاشا الشيخ دام مجده ان يتفوه بهذا و انه لمن عجب العجائب.

### السؤال الواحد والعشرون

اتقولون ان ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم مستقبح شرعا من البدعات السيئة المحرمة ام غير ذلك

مسلمان رسول اللہ ﷺ کے علم اور زید و بکر و بہائم کے علم کو برابر کہے بلکہ مولانا تو بطریق التزام یوں فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ پر بعض غیب جاننے کی وجہ سے عالم الغیب کے اطلاق کو جائز سمجھتا ہے اس پر لازم آتا ہے کہ حجج انسان و بہائم پر بھی اس اطلاق کو جائز سمجھے پس کہاں یہ اور کہاں وہ علمی مساوات جس کا مبتدعین نے مولانا پر افتراء باندھا۔ جھوٹوں پر خدا کی پھٹکار، ہمارے نزدیک متیقن ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کے علم کو زید و بکر و بہائم و مجانین کے علم کے برابر سمجھے یا کہے وہ قطعاً کافر ہے اور حاشا کہ مولانا دام مجدہ ایسی واہیات منہ سے نکالیں۔ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔

### اکیسواں سوال

کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا ذکر ولادت شرعاً قبیح سیئہ حرام ہے یا اور کچھ؟

### الجواب

حاشا ان يقول احد من المسلمين فضلا ان نقول نحن ان ذكر ولادته الشريفة عليه الصلوة والسلام بل و ذكر غبار نعاله و بول حماره صلى الله عليه وسلم مستقبح من البدعات السيئة المحرمة فالاحوال التي لها ادنى تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها من احب المندوبات و اعلى المستحبات عندنا سواء كان ذكر ولادته الشريفة او ذكر بوله و برازه و قيامه و وقوده و نومته و نبهته كما هو مصرح في رسالتنا المسماة بالبراهين القاطنة في مواضع شتى منها وفي فتاوى مشائخنا رحمهم الله تعالى كما في فتوى مولانا احمد علي المحدث السهارنفوري تلميذ الشاه محمد اسحق الدهلوي ثم المهاجر المكي نقله مترجما لتكون نمونة عن الجميع سئل هو رحمه الله تعالى عن مجلس الميلاد باى طريق يجوز و باى طريق لا يجوز فاجاب بان ذكر الولادة الشريفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايات صحيحة في

### جواب

حاشا کہ ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت شریفہ کا ذکر بلکہ آپ کی جویتوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب کا تذکرہ بھی قبیح و بدعت سیئہ یا حرام کہے وہ جملہ حالات جن کو رسول اللہ ﷺ سے ذرا سا بھی علاقہ ہے ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کا مستحب ہے خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو یا آپ کے بول و براز، نشست و برخاست اور بیداری و خواب کا تذکرہ ہو جیسا کہ ہمارے رسالہ براہین قاطعہ میں متعدد جگہ بصراحت مذکور اور ہمارے مشائخ کے فتویٰ میں مسطور ہے چنانچہ شاہ محمد اسحق صاحب دہلوی مہاجر مکی کے شاگرد مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کا فتویٰ عربی میں ترجمہ کر کے ہم نقل کرتے ہیں تاکہ سب کی تحریرات کا نمونہ بن جائے۔ مولانا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مجلس میلاد شریف کس طریقہ سے جائز ہے اور کس طریقہ سے ناجائز؟ تو مولانا نے اس کا یہ جواب لکھا کہ سیدنا رسول اللہ ﷺ کی ولادت شریف کا ذکر صحیح روایات سے ان اوقات میں جو عبادات واجبہ سے خالی ہوں، ان کیفیات سے جو صحابہ کرامؓ اور ان اہل قرون ثلاثہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو جن کے خیر ہونے کی شہادت حضرت

اوقات خالية عن وظائف العبادات الواجبات و بکيفيات لم تكن مخالفة عن طريقة الصحابة واهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخير وبالاعتقادات التي موهمة بالشرك والبدعة و بالاداب التي لم تكن مخالفة عن سيرة الصحابة التي هي مصداق قوله عليه السلام ما انا عليه و اصحابي و في مجالس خالية عن المنكرات الشرعية موجب للخير والبركة بشرط ان يكون مقرونا بصدق النية والاخلاص واعتقاد كونه داخلا في جملة الاذکار الحسنة المندوبة غير مقيد بوقت من الاوقات فاذا كان كذلك لا تعلم احدا من المسلمين ان يحكم عليه بكونه غير مشروع او بدعة الى اخر الفتوى فعلم من هذا انا لا ننكر ذكر ولادته الشريفة بل ننكر على الامور المنكرة التي انضمت معها كما شفتموها في المجالس المولودية التي في الهند من ذكر الروايات الواهيات الموضوعة واختلاط الرجال و النساء والاسراف في ايقاد الشموع والتزيينات واعتقاد

نے دی ہے ان عقیدوں سے جو شرک و بدعت کے موہم نہ ہوں ان آداب کے ساتھ جو صحابہ کی اس سیرت کے مخالف نہ ہوں، جو حضرت کے ارشاد ما انا عليه و اصحابی کی مصداق ہے ان مجالس میں جو منکرات شرعیہ سے خالی ہوں سب خیر و برکت ہے بشرطیکہ صدق نیت اور اخلاص اور اس عقیدہ سے کیا جائے کہ یہ بھی منجملہ دیگر اذکار حسنہ کے ذکر حسن ہے کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں پس جب ایسا ہوگا تو ہمارے علم میں کوئی مسلمان بھی اس کے ناجائز یا بدعت ہونے کا حکم نہ دے گا الخ اس سے معلوم ہو گیا کہ ہم ولادت شریفہ کے منکر نہیں بلکہ ان ناجائز امور کے منکر ہیں جو اس کے ساتھ مل گئے ہیں جیسا کہ ہندوستان کے مولود کی مجلسوں میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہاں ہیات موضوع روایات بیان ہوتی ہیں۔ مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ چراغوں کے روشن کرنے اور دوسری آرائشوں میں فضول خرچی ہوتی ہے اور اس مجلس کو واجب سمجھ کر جو شامل نہ ہوں اس پر طعن و تکفیر ہوتی ہے اس کے علاوہ اور منکرات شرعیہ ہیں جن سے شاید ہی کوئی مجلس میلاد خالی ہو، پس اگر مجلس مولود منکرات سے خالی ہو تو حاشا کہ ہم یوں کہیں کہ ذکر ولادت شریفہ ناجائز اور بدعت ہے اور ایسے قول شنیع کا کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے

کونہ واجبا بالطعن والسب و التكفير على من لم يحضر معهم مجلسهم وغيرها من المنكرات الشرعية التي لا يكاد يوجد خاليا منها فلو خلا من المنكرات حاشا ان نقول ان ذكر الولادة الشريفة منكر و بدعة و كيف يظن بمسلم هذا القول الشنيع فهذا القول علينا ايضا من افتراءات الملاحدة الدجالين الكذابين خذلهم الله تعالى ولعنهم برا و بحرا سهلا و جبلا.

پس ہم پر یہ بہتان جھوٹے طحہ دجالوں کا افتراء ہے۔ خدا ان کو سوا کرے اور ملعون کرے خشکی و تری، نرہ و سخت زمین میں۔

## السؤال الثاني والعشرون

هل ذكرتم في رسالة ما ان ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم كجنم اسمى كنهيا ام لا؟

## الجواب

هذا ايضا من افتراءات الدجالة المبتدعين علينا وعلى اكابرنا و قد بينا سابقا ان ذكره عليه السلام من احسن المندوبات و افضل المستحبات فكيف يظن بمسلم ان يقول معاذ الله ان ذكر الولادة الشريفة مشابه بفعل الكفار وانما اخترعوا هذه الفرية عن عبارة مولانا

## بائیسواں سوال

کیا تم نے کسی رسالہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت کی ولادت کا ذکر کنہیا کے جنم اسٹی کی طرح ہے یا نہیں؟

## جواب

یہ بھی مبتدعین دجالوں کا بہتان ہے جو ہم پر اور ہمارے بڑوں پر باندھا ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت کا ذکر ولادت محبوب تر اور افضل ترین مستحب ہے پھر کسی مسلمان کی طرف کیونکر گمان ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ یوں کہے کہ ذکر ولادت شریفہ فعل کفار کے مشابہ ہے۔ بس اس بہتان کی بندش مولانا گنگوہی قدس سرہ کی اس عبارت سے کی گئی ہے جس کو ہم نے براہین کے

الجنجوهی قدس الله سره العزیز التي نقلناها فی البراهین علی صفحة ۱۲۱ وحاشا للشیخ ان یتکلم ومراده بعید بمراحل عما نسبوا الیه كما سیظهر عن مانذکره وهی تنادی باعلی نداء ان من نسب الیه ما ذکره کذاب مفتر و حاصل ما ذکره الشیخ رحمه الله تعالی فی مبحث القیام عند ذکر الولادة الشریفة ان من اعتقد قدوم روحه الشریفة من عالم الارواح الی عالم الشهادة وتیقن بنفس الولادة المنیفة فی المجلس المولودية فعامل ماکان واجباً فی الساعة الولادة الماضیة الحقیقیة فهو منخطیء متشبه بالمجوس فی اعتقادهم تولد معبودهم المعروف (بکنهیا) کل سنة و معاملتهم فی ذلک الیوم ماعومل به وقت ولادة الحقیقیة او متشبه بروافض الهند فی معاملتهم بسیدنا الحسین واتباعه من شهداء کربلا ورضی الله عنهم اجمعین حیث یاتون بحکایة جمیع مافعل معهم فی کربلاء یوم قولاً و فعلاً فیینون النعش و الکفن و القبور و یدفنون فیها

صفحة ۱۲۱ پر نقل کیا ہے اور حاشا کہ مولانا ایسی واہیات بات فرماویں۔ آپ کی مراد اس سے کہوں دور ہے جو آپ کی طرف منسوب ہوا۔ چنانچہ ہمارے بیان سے عنقریب معلوم ہو جائے گا اور حقیقت حال پکاراٹھے گی کہ جس نے اس مضمون کو آپ کی طرف نسبت کیا وہ جھوٹا مفتری ہے۔ مولانا نے ذکر ولادت شریف کی وقت قیام کی بحث میں جو کچھ بیان کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت کی روح پر فتوح عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف آتی ہے اور مجلس مولود میں نفس ولادت کے وقوع کا یقین رکھ کر وہ برتاؤ کرے جو واقعی ولادت کی گزشتہ ساعت میں کرنا ضروری تھا، تو یہ شخص غلطی پر یا تو مجوس کی مشابہت کرتا ہے اس عقیدہ میں کہ وہ بھی اپنے معبود یعنی کنہیا کی ہر سال ولادت مانتے اور اس دن وہی برتاؤ کرتے ہیں جو کنہیا کی حقیقت ولادت کے وقت کیا جاتا اور یاروافض اہل ہند کی مشابہت کرتا ہے امام حسینؑ اور ان کے تابعین شہداء کربلا رضی اللہ عنہم کے ساتھ برتاؤ میں۔ کیونکہ روافض بھی ساری ان باتوں کی نقل اتارتے ہیں جو قولاً و فعلاً عاشورا کے دن میدان کربلا میں ان حضرات کے ساتھ کیا گیا۔ چنانچہ نعش بناتے، کفنا تے اور قبور کھود کر دفناتے ہیں۔ جنگ و قتال کے جھنڈے چڑھاتے، کپڑوں کو

ویظہرون اعلام الحرب و القتال ویصبغون الثیاب بالدماء و ینوحون علیہا وامثال ذلک من الخرافات كما لا یخفی علی من شاهد احوالهم فی هذه الدیار و نص عبارته المتعربة هكذا و اما توجیه (ای القیام) بقدم روحه الشریفة صلی الله علیه وسلم من عالم الارواح الی عالم الشهادة فیقومون تعظیماً له فهذا ایضاً من حماقاتهم لان هذا الوجه یقتضی القیام عند تحقق نفس الولادة الشریفة ومتی تتكرر الولادة فی هذه الايام فهذه الاعادة للولادة الشریفة مماثلة بفعل مجوس الهند حیث یاتون بعین حکایة ولادة معبودهم (کنہیا) او مماثلة للروافض الذین ینقلون شهادة اهل البیت رضی الله عنهم کل سنة (ای فعلاً و عملاً) فمعاذ الله ما فعلهم هذا حکایة للولادة المنیفة الحقیقیة وهذه الحركة بلا شک و شبهة حرية باللوم والحرمة والفسق بل فعلهم هذا یزید علی فعل اولئک فانهم یفعلونه فی کل عام مرة واحدة وهؤلاء یفعلون

خون میں رنگتے اور ان پر نوے کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر خرافات ہوتی ہیں جیسا کہ ہر وہ شخص آگاہ ہے جس نے ہمارے ملک میں ان کی حالت دیکھی ہے۔ مولانا کی اردو عبارت کی اصل عربی یہ ہے: قیام کی یہ وجہ بیان کرنا کہ روح شریف عالم ارواح سے عالم شہادت کی جانب تشریف لاتی ہے۔ پس حاضرین مجلس اس کی تعظیم کو کھڑے جاتے ہیں۔ پس یہ بھی بیوقوفی ہے کیونکہ یہ وجہ نفس ولادت شریفہ کے وقت کھڑے ہو جانے کو چاہتی ہے اور ظاہر ہے کہ ولادت شریفہ بار بار ہوتی نہیں پس ولادت شریفہ کا اعادہ یا ہندوؤں کے فعل کے مثل ہے کہ وہ اپنے معبود کنہیا کی اصل ولادت کی پوری نقل اتارتے ہیں یا رافضیوں کے مشابہ ہے کہ ہر سال شہادت اہل بیت کی قولاً و فعلاً تصویر کھینچتے ہیں، پس معاذ اللہ بدعتیوں کا یہ فعل واقعی ولادت شریفہ کی نقل بن گیا اور یہ حرکت بے شک و شبہ بلامت کے قابل اور حرمت و فسق ہے بلکہ ان کا یہ فعل ان کے فعل سے بھی بڑھ گیا کہ وہ تو سال بھر میں ایک ہی بار نقل اتارتے ہیں اور یہ لوگ اس فرضی مزخرفات کو جب چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں کہ کسی امر کو فرض کر کے اس کے ساتھ حقیقت کا سا برتاؤ کیا جائے بلکہ ایسا فعل شرعاً حرام ہے الخ..... پس اے صاحبان

هذه المزخرفات الفرضية متى شاءوا وليس لهذا نظير في الشرع بان يفرض امر و يعامل معه معاملة الحقيقة بل هو محرم شرعاً اه فانظروا يا اولى الالباب ان حضرة الشيخ قدس الله سره العزيز انما انكر على جهلاء الهند المعتقدين منهم هذه العقيدة الكاسدة الذين يقومون لمثل هذه الخيالات الفاسدة فليس فيه تشبيه لمجلس ذكر الولادة الشريفة بفعل المجوس و الروافض حاشا اكابرنا ان يتفوهوا بمثل ذلك ولكن الظلمين على اهل الحق يفترون و بايات الله يجحدون.

### السؤال الثالث والعشرون

هل قال الشيخ الاجل علامة الزمان المولوى رشيد احمد الجنجوهى بفعالية كذب البارى تعالى و عدم تضليل قائل ذلك ام هذا من الافتراءات عليه وعلى التقدير الثانى كيف الجواب عما يقوله البريلوى انه يضع عنده تمثال فتوى الشيخ المرحوم بفوتو گراف المشتمل على ذلك.

عقول غور فرمايے شیخ قدس سرہ نے تو ہندی جاہلوں کے اس جھوٹے عقیدہ پر انکار فرمایا ہے کہ جو ایسے واہیات فاسد خیالات کی بنا پر قیام کرتے ہیں اس میں کہیں بھی مجلس ذکر ولادت شریفہ کو ہندو یا رافضیوں کے فعل سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ حاشا کہ ہمارے بزرگ ایسی بات کہیں، لیکن ظالم لوگ اہل حق پر افتراء کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔

### تیسواں سوال

کیا علامہ زماں مولوی رشید احمد گنگوہی نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے اور ایسا کہنے والا گمراہ نہیں ہے، یا یہ ان پر بہتان ہے۔ اگر بہتان ہے تو بریلوی کی اس بات کا کیا جواب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مولانا مرحوم کے فتوے کا فوٹو ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے۔

### الجواب

الذى نسبوا الى الشيخ الاجل الاوحد الابلج علامة زمانه فرید عصره و او انه مولنا رشيد احمد جنجوهى من انه كان قائلاً بفعالية الكذب من البارى تعالى شانه و عدم تضليل من تفوه بذلك فمكذوب عليه رحمه الله تعالى و هو من الاكاذيب التى افتراها بالالسة الدجالون الكذابون فقاتلهم الله انى يؤفكون و جنابه برئ من تلك الزندقة والاحاد و يكذبهم فتوى الشيخ قدس سره التى طبعت وشاعت فى المجلد الاول من فتاواه الموسومة بالفتاوى الرشيدية على صفحة ۱۱۹ منها و هى عربية مصححة مختومة بختام علماء مكة المكرمة.

وصورة سواله هكذا:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسولہ الكريم  
ماقولکم دام فضلکم فى ان الله  
تعالى هل يتصف بصفة الكذب ام لا  
ومن يعتقد انه يكذب كيف حكم  
افتونا ماجورين.

### جواب

علامہ زماں یکتائے دوراں شیخ اجل مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی طرف مبتدعین نے جو یہ منسوب کیا ہے کہ آپ نعوذ باللہ حق تعالیٰ کے جھوٹ بولنے اور ایسا کہنے والے کو گمراہ نہ کہنے کے قائل تھے۔ یہ بالکل آپ پر جھوٹ بولا گیا اور مجملہ انہیں جھوٹے بہتانوں کے ہے جن کی بندش جھوٹے دجالوں نے کی ہے پس خدا ان کو ہلاک کرے، کہاں جاتے ہیں۔ جناب مولانا اس زندقہ والحاد سے بری ہیں اور ان کی تکذیب خود مولانا کا فتویٰ کر رہا ہے جو جلد اول فتاویٰ رشیدیہ کے صفحہ ۱۱۹ پر طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ تحریر اس کی عربی میں ہے، جس پر تصحیح و مواہیر علماء مکہ مکرمہ ثبت ہیں۔

سوال کی صورت یہ ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلى على رسولہ الكريم  
آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ اللہ تعالیٰ  
صفت کذب کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے یا نہیں  
اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے اس کا  
کیا حکم ہے، فتویٰ دو، اجر ملے گا۔

## الجواب

ان الله تعالى منزه من ان يتصف بصفة الكذب وليست في كلامه شائبة الكذب ابدا كما قال الله تعالى ومن اصدق من الله قيلا، و من يعتقد و يتفوه بان الله تعالى يكذب فهو كافر ملعون قطعاً و مخالف للكتاب والسنة واجماع الامة نعم اعتقاد اهل الايمان ان ما قال الله تعالى في القرآن في فرعون وهامان و ابى لهب انهم جهنميون فهو حكم قطعي لا يفعل خلافه ابدا لكنه تعالى قادر على ان يدخل الجنة وليس بعاجز عن ذلك و لا يفعل هذا مع اختياره قال الله تعالى ولو شئنا لا تينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملن جهنم من الجنة والناس اجمعين فتبين من هذا الاية انه تعالى لو شاء لجعلهم كلهم مومنين ولكنه لا يخالف ما قال و كل ذلك بالاختيار لا بالاضطرار و هو فاعل مختار فعال لما يريد. هذه عقيدة جميع علماء الامة كما قال البيضاوي تحت تفسير

بے شک اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ کذب کے ساتھ متصف ہو۔ اس کے کلام میں ہرگز کذب کا شائبہ بھی نہیں جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کون۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے نکالے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے وہ کافر، قطعی ملعون اور کتاب و سنت و اجماع امت کا مخالف ہے ہاں اہل ایمان کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرعون و ہامان و ابولہب کے متعلق جو یہ فرمایا ہے کہ وہ دوزخی ہیں تو یہ حکم قطعی ہے اس کے خلاف کبھی نہ کرے گا۔ لیکن اللہ ان کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ضرور ہے عاجز نہیں۔ ہاں البتہ اپنے اختیار سے ایسا کرے گا نہیں، وہ فرماتا ہے ”اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے لیکن میرا قول ثابت ہو چکا کہ ضرور دوزخ بھروں گا، جن و انس دونوں سے“ پس اس آیت سے ظاہر ہو گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا لیکن وہ اپنے قول کے خلاف نہیں کرتا اور یہ سب باختیار ہے بجزوری نہیں کیونکہ وہ فاعل مختار ہے، جو چاہے کرے۔ یہی عقیدہ تمام علماء امت کا ہے جیسا کہ بیضاوی نے قول باری تعالیٰ وان تغفر لهم کی تفسیر کے تحت میں کہا ہے کہ مشرک کا نہ بخشاؤ عید کا مقتضی ہے۔ پس اس میں لذاتہ امتناع

## جواب

قوله تعالى ان تغفر لهم الخ وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته والله اعلم بالصواب.

کتبہ الا حق رشید احمد جنجوهی عفی عنہ.

خلاصة: تصحيح علماء مكة المكرمة زاد الله شرفها الحمد لمن هو به حقيق ومنه استمد العون والتوفيق ما اجاب به العلامة رشيد احمد المذكور هو الحق الذي لا محيص منه وصلى الله على خاتم النبيين وعلى اله و صحبه وسلم امر برقمه خادم الشريعة راجى اللطف خفى محمد صالح ابن المرحوم صديق كمال الحنفى مفتى مكة المكرمة حالا كان الله لهما (محمد صالح بن المرحوم صديق كمال) رقمه المرتجى من ربه كمال النيل محمد سعيد بن محمد بابصيل بمكة المحمية غفر الله له ولوالديه و لمشائخه وجميع المسلمين. (محمد سعيد بن محمد بصيل)

الراجى العفو من واهب العطفية محمد عابد بن المرحوم الشيخ حسين مفتى المالكية ببلد الله المحمية.

نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ احقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہا کے علماء کی تصحیح کا خلاصہ یہ ہے۔ حمد اسی کو زیبا ہے جو اس کا مستحق ہے اور اسی کی اعانت و توفیق درکار ہے۔ علامہ رشید احمد کا جواب مذکورہ حق ہے جس سے مفر نہیں ہو سکتا۔

وصلی اللہ علی خاتم النبیین و علی آلہ و صحبہ و سلم اس کے لکھنے کا امر فرمایا خادم شریعت امیدوار لطف خفی محمد صالح خلف صدیق کمال مرحوم خفی مفتی مکہ کان اللہ لہما۔ نے لکھا امیدوار کمال نیل محمد سعید بن بصیل نے، حق تعالیٰ ان کو اور ان کے مشائخ کو اور جملہ مسلمانوں کو بخش دے۔

امیدوار عفو از و اہب العطفیہ محمد عابد بن شیخ حسین مرحوم مفتی مالکیہ



مصلیا ومسلما هذا وما اجاب العلامة رشيد احمد فيه الكفاية و عليه المعول بل هو الحق الذی لا محيص عنه رقمه الحقیق خلف بن ابراهيم خادم افتناء الحنابلہ بمكة المشرفة.

والجواب عما يقول البریلوی انه يضع عنده تمثال فتوى الشيخ المرحوم بفوتو گراف المشتمل على ما ذكر هو انه من مختلفاته اختلقها ووضعها عنده افتراء على الشيخ قدس سره ومثل هذه الاكاذيب والاختلافات هين عليه فانه استاذ الاساتذة فيها وكلهم عيال عليه في زمانه فانه محرف ملبس ودجال مكار ربما يصور الامهار وليس بادنى من المسيح القاديانى فانه يدعى الرسالة ظاهرا وعلنا وهذا يستتر بالمجددية و يكفر علماء الامة كما كفر الوهابية اتباع محمد بن عبدالوهاب الامة خذله الله تعالى كما خذلهم.

### السؤال الرابع والعشرون

هل تعتقدون امكان وقوع الكذب فى كلام من كلام المولى عزوجل سبحانه ام كيف الامر.

درود و سلام کے بعد، جو کچھ علامہ رشید احمد نے جواب دیا ہے، کافی ہے اور اس پر اعتماد ہے بلکہ یہی حق ہے جس سے مفر نہیں۔ لکھا حقیر خلف بن ابراہیم حنبلی خادم افتاء مکہ مشرف نے۔

اور یہ جو بریلوی کہتا ہے کہ اس کے پاس مولانا کے فتویٰ کا فوٹو ہے جس میں ایسا لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا قدس سرہ پر بہتان باندھنے کو یہ جعل ہے جس کو گھڑ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے اور ایسے جھوٹ اور جعل اسے آسان ہیں کیونکہ وہ اس میں استادوں کا استاد ہے اور زمانہ کے لوگ اس کے چیلے۔ کیونکہ تحریف و تلبیس و دجل و مکر کی اس کو عادت ہے۔ اکثر مہرین بنا لیتا ہے، مسخ قادیانی سے کچھ کم نہیں، اس لیے کہ وہ رسالت کا کھلم کھلا مدعی تھا اور یہ مجددیت کو چھپائے ہوئے ہے۔ علمائے امت کو کافر کہتا رہتا ہے، جس طرح محمد بن عبدالوہاب کے وہابی چیلے امت کی تکفیر کیا کرتے تھے۔ خدا اس کو بھی انہیں کی طرح رسوا کرے۔

### چوبیسواں سوال

کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ کے کسی کلام میں وقوع کذب ممکن ہے؟ یا کیا بات ہے؟

### الجواب

نحن ومشاہنا رحمهم الله تعالى نذعن ونتيقن بان كل كلام صدر عن البارى عزوجل اوسيصدر عنه فهو مقطوع الصدق مجزوم بمطابقته للواقع وليس فى كلام من كلامه تعالى شائبة كذب ومظنة خلاف اصلا بلا شبهة ومن اعتقد خلاف ذلك او توهم بالكذب فى شىء من كلامه فهو كافر ملحد زنديق ليس له شائبة من الايمان.

### السؤال الخامس والعشرون

هل نستتم فى تالیفكم الى بعض الاشاعرة القول بامكان الكذب وعلى تقديرها فما المراد بذلك وهل عندكم نص على هذا المذهب من المعتمدين بينوا الامر لنا على وجهه.

### الجواب

الاصل فيه انه وقع النزاع بيننا وبين المنطقيين من اهل الهند و المبتدعة منهم فى مقدورية خلاف ما وعد به البارى سبحانه و تعالى او اخبر به او اراده وامثالها فقالوا ان خلاف هذه الاشياء خارج عن القدرة القديمة

### جواب

ہم اور ہمارے مشائخ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کلام بھی حق تعالیٰ سے صادر ہوا یا آئندہ ہوگا وہ یقیناً سچا اور بلاشبہ واقع کے مطابق ہے اس کے کسی کلام میں کذب کا شائبہ اور خلاف کا واہمہ بھی بالکل نہیں اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے کسی کلام میں کذب کا واہمہ کرے وہ کافر، ملحد، زندیق ہے۔ اس میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں۔

### چھپیسواں سوال

کیا تم نے اپنی کسی تصنیف میں اشاعرہ کی طرف امکان کذب منسوب کیا ہے اور اگر کیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے اور اس مذہب پر تمہارے پاس معتبر علماء کی کیا کوئی سند ہے؟ واقعی امر ہمیں بتلاؤ۔

### جواب

اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اور ہندی منطقیوں و بدعتیوں کے درمیان اس مسئلہ میں نزاع ہوا کہ حق تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا خبر دی، یا ارادہ کیا، اس کے خلاف پر اس کو قدرت ہے یا نہیں۔ سو وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ان باتوں کا خلاف اس کی قدرت قدیمہ سے خارج اور عقلاً محال ہے۔ ان

مستحيل عقلاً لا يمكن ان يكون مقدوراً له تعالى. واجب عليه مايطابق الوعد والخبر والارادة والعلم وقلنا ان امثال هذه الاشياء مقدور قطعاً لكنه غير جائز الوقوع عند اهل السنة والجماعة عن الاشاعة والماتريدية وشرعاً وعقلاً عند الماتريدية وشرعاً فقط عند الاشاعة فاعترضوا علينا بانہ ان امکن مقدورية هذه الاشياء لزم امكان الكذب وهو غير مقدور قطعاً و مستحيل ذاتاً فاجبناهم باجوبة شتى مما ذكره علماء الكلام منها لو سلم استلزام امكان الكذب لمقدوره خلاف الوعد و الاخبار و امثالهما فهو ايضاً غير مستحيل بالذات بل هو مثل السفه والظلم مقدور ذاتاً ممتنع عقلاً وشرعاً او شرعاً فقط كما صرح به غير واحد من الائمة فلما رأوا هذه الاجوبة عثوا في الارض ونسبوا اليها تجويز النقص بالنسبة الى جنابه تبارك وتعالى و اشاعوا هذا الكلام بين السفهاء و الجهلاء تنفيراً للعوام و ابتغاء الشهوات والشهرة بين الانام و بلغوا

کا مقدور خدا ہونا ممکن ہی نہیں اور حق تعالیٰ پر واجب ہے کہ وعدہ اور خبر اور ارادہ اور علم کے مطابق کرے اور ہم یوں کہتے ہیں کہ ان جیسے افعال یقیناً قدرت میں داخل ہیں، البتہ اہل السنۃ والجماعت اشاعرہ و ماتریدیہ سب کے نزدیک ان کا وقوع جائز نہیں۔ ماتریدیہ کے نزدیک نہ شرعاً جائز نہ عقلاً اور اشاعرہ کے نزدیک صرف شرعاً جائز نہیں۔ پس بدعتیوں نے ہم پر اعتراض کیا کہ ان امور کا تحت قدرت ہونا اگر جائز ہو تو کذب کا امکان لازم آتا ہے اور وہ یقینی تحت قدرت نہیں اور ذاتاً محال ہے تو ان کو علماء کلام کے ذکر کیے ہوئے چند جواب دیئے جن میں یہ بھی تھا کہ اگر وعدہ و خبر وغیرہ کا خلاف تحت قدرت ماننے سے امکان کذب تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ بھی تو بالذات محال نہیں بلکہ سفہ اور ظلم کی طرح ذاتاً مقدور ہے اور عقلاً و شرعاً یا صرف شرعاً ممتنع ہے جیسا کہ بہترے علماء اس کی تصریح کر چکے ہیں پس جب انہوں نے یہ جواب دیکھے تو ملک میں فساد پھیلانے کو ہماری جانب منسوب کیا کہ جناب باری عزاسمہ کی جانب نقص جائز سمجھتے ہیں اور عوام کو نفرت دلانے اور مخلوق میں شہرت پا کر اپنا مطلب پورا کرنے کو سفہاء و جبلاء میں اس لغویات کی خوب شہرت دی اور بہتان کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ اپنی طرف سے فعلیت

اسباب سموات الافتراء فوضعوا تمثالا من عندهم لفعلية الكذب بلا مخافة عن الملك العلام ولما اطلع اهل الهند على مكائدهم استنصروا بعلماء الحرمين الكرام لعلمهم بانهم غافلون عن خباثاتهم وعن حقيقة اقوال علمائنا وما مثلهم في ذلك الاكتمل المعتزلة مع اهل السنة والجماعة فانهم اخرجوا اثابة العاصي و عقاب المطيع عن القدرة القديمة و اوجبوا العدل على ذاته تعالى فسموا انفسهم اصحاب العدل والتنزية ونسبوا علماء اهل السنة والجماعة الى الجور و الاعتساف والتشويه فكما ان قدماء اهل السنة و الجماعة لم يبالوا بجهالاتهم ولم يجوزوا العجز بالنسبة اليه سبحانه وتعالى في الظلم المذكور وعمموا القدرة القديمة مع ازالة النقائص عن ذاته الكاملة الشريفة واتمام التنزيه و التقديس لجنابه العالی قائلين ان ظنكم المنقصة في جواز مقدورية العقاب للطائع والثواب للعاصي انما هو وخامة الفلسفة الشنيعة كذلك

کذب کا فوٹو وضع کر لیا اور خدائے ملک علام کا کچھ خوف نہ کیا اور جب اہل ہند ان کی مکاریوں پر مطلع ہوئے تو انہوں نے علماء حرمین سے مدد چاہی کیونکہ جانتے تھے کہ وہ حضرات ان کی خباثت اور ہمارے علماء کے اقوال کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اس معاملہ میں ہماری ان کی مثال معتزلہ اور اہل سنت کی سی ہے کہ معتزلہ نے عاصی کو بجائے سزائے ثواب اور مطیع کو سزا دینا قدرت قدیمہ سے خارج اور ذات باری پر عدل واجب بتا کر اپنا نام اصحاب عدل و تنزیہ رکھا، اور علمائے اہل السنۃ والجماعت کی جور اور تعصب کی طرف نسبت کی۔ اور علماء اہل السنۃ والجماعت نے ان کی جہالتوں کی پروا نہیں کی اور ظلم مذکور میں حق تعالیٰ شانہ کی جانب عجز کا منسوب کرنا جائز نہیں سمجھا بلکہ قدرت قدیمہ کو عام کہہ کر ذات کاملہ سے نقائص کا ازالہ اور جناب باری کے کمال تقدس و تنزیہ کو یوں کہہ کر ثابت کیا کہ نیکو کار کے لیے عذاب اور بدکار کے لیے ثواب کو تحت قدرت باری تعالیٰ ماننے سے نقص کا گمان کرنا محض فلسفہ شنیعہ کی حماقت ہے۔ اسی طرح ہم نے بھی ان کو جواب دیا کہ وعدہ خبر و صدق وعدہ کے خلاف کو صرف تحت قدرت ماننے سے حالانکہ صرف شرعاً و عقلاً دونوں طرح وقوع ممتنع ہے، نقص کا گمان کرنا تمہاری جہالت کا ثمرہ اور منطوق و فلسفہ کی بلا ہے۔

قلنا لهم ان ظنكم النقص بمقدوره خلاف الوعد و الاخبار و الصدق و امثال ذلك مع كونه ممتنع الصدور عنه تعالى شرعاً فقط او عقلاً و شرعاً انما هو من بلاء الفلسفة و المنطق و جهلكم الوخيم فهم فعلوا ما فعلوا لاجل التنزيه لكنهم لم يقدروا على كمال القدرة و تعميمها و اما اسلافنا اهل السنة و الجماعة فجمعوا بين الامرين من تعميم القدرة و تتميم التنزيه للواجب سبحانه و تعالى و هذا الذي ذكرناه في البراهين مختصراً و هاكم بعض النصوص عليه من الكتب المعتمدة في المذهب.

(۱) قال في شرح المواقف اوجب جميع المعتزلة و الخوارج عقاب صاحب الكبيرة اذا مات بلا توبة و لم يجوزوا ان يعفو الله عنه بوجهين الاول انه تعالى اوعد بالعقاب على الكبائر و اخبر به اى بالعقاب عليها فلو لم يعاقب على الكبيرة و عفا لزم

(۱) شرح مواقف میں مذکور ہے کہ تمام معتزلہ اور خوارج نے مرتکب کبیرہ کے عذاب کو جب کہ بیلا توبہ مر جائے، واجب کہا ہے اور جائز نہیں سمجھا کہ اللہ اسے معاف کرے اس کی دو وجہ بیان کی ہیں: اول یہ کہ حق تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں پر عذاب کی خیر دی اور وعید فرمائی ہے۔ پس اگر عذاب نہ دے اور معاف کر دے تو وعید کے خلاف اور خبر میں کذب لازم آتا ہے اور یہ محال ہے۔ اس کا جواب

الخلف في وعيده و الكذب في خبره و انه محال و الجواب غايته وقوع العقاب فاین وجوب العقاب الذي كلامنا فيه اذ لا شبهة في ان عدم الوجوب مع الوقوع خلفا ولا كذبا لا يقال انه يستلزم وهو ايضا محال لانا نقول استحالته ممنوعة كيف و هما من الممكنات التي تشتملها قدرته تعالى، اه.

(۲) وفي شرح المقاصد للعلامة التفتازاني رحمه الله تعالى في خاتمة بحث القدرة المنكروين لشمول قدرته طوائف منهم النظام و اتباعه القائلون بانه لا يقدر على الجهل و الكذب و الظلم و سائر القبائح اذ لو كان خلقها مقدورا له لجاز صدوره عنه و اللازم باطل لا فضائه الى السفه ان كان عالما بقبح ذلك و باستغناؤه عنه و الى الجهل ان لم يكن عالما و الجواب لا نسلم قبح الشئ بالنسبة اليه كيف و هو تصرف في ملكه و لو

(۲) اور شرح مقاصد میں علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی بحث کے آخر میں لکھا ہے کہ قدرت کے منکر چند گروہ ہیں۔ ایک نظام اور اس کے تابعین جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہل اور کذب و ظلم و نیز کسی فعل قبیح پر قادر نہیں کیونکہ ان افعال کا پیدا کرنا اگر اس کی قدرت میں داخل ہو تو ان کا حق تعالیٰ سے صدور بھی جائز ہوگا اور صدور ناجائز ہے کیونکہ اگر باوجود علم قبیح کے بے پروائی کے سبب صدور ہوگا تو سبب لازم آئے گا اور علم نہ ہوگا تو جہل لازم آئے گا۔ جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی جانب نسبت کر کے کسی شے کا قبیح ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنے ملک میں تصرف کرنا قبیح نہیں ہو سکتا اور اگر مان بھی لیں کہ قبیح کی

سلم فالقدرة لاتنا في امتناع صدوره نظرا لى وجود الصارف وعدم الداعى وان كان ممكنا اه ملخلصه:

نسبت قبیح ہے تو قدرت حق امتناع صدور کے منافی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فی نفسہ تحت قدرت ہو مگر مانع کے موجود یا باعث صدور مفقود ہونے کے سبب اس کا وقوع ممتنع ہو۔

(۳) قال فی المسائرة وشرحه المسامرة للعلامة المحقق کمال بن الهمام الحنفی و تلمیذہ ابن ابی الشریف المقدسی الشافعی رحمهما الله تعالى مانصه ثم قال ای صاحب العمدة ولا یوصف الله تعالى بالقدرة علی الظلم والسفه و الکذب لان المحال لا یدخل تحت القدرة ای یصح متعلقا لها وعند المعتزلة یقدر تعالى علی کل ذلک و لا یفعل انتهی کلام صاحب العمدة وکانه انقلب علیه مانقله من المعتزلة اذ لا شک ان سلب القدرة عما ذکر هو مذهب المعتزلة و اما ثبوتها ای القدرة علی ما ذکر ثم الامتناع عن متعلقها اختیارا فهو بمذهب الاشاعرة البیق منه بمذهب المعتزلة ولا یخفی ان هذا الالیق ادخل فی التنزیه ایضا اذ لا شک فی ان الامتناع عنها ای عن

(۳) مسائرہ اور اس کی شرح مسامرہ میں علامہ کمال بن ہمام حنفی اور ان کے شاگرد ابن ابی الشریف مقدسی شافعی رحمہما اللہ یہ تصریح فرما رہے ہیں پھر صاحب العمدہ نے کہا حق تعالیٰ کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ ظلم و سفہ اور کذب پر قادر ہے (کیونکہ ہو سکتا ہے جب کہ خلف و کذب ان ممکنات میں داخل ہیں جن کو قدرت باری تعالیٰ شامل ہے) کیونکہ محال قدرت کے تحت میں داخل نہیں ہوتا یعنی قدرت کا تعلق اس کے ساتھ صحیح نہیں، اور معتزلہ کے نزدیک افعال مذکورہ پر حق تعالیٰ قادر تو ہے مگر کرے گا نہیں۔ صاحب العمدة کا کلام ختم ہو گیا۔ (اب کمال الدین فرماتے ہیں) کہ صاحب العمدة نے جو معتزلہ سے نقل کیا وہ الٹ پلٹ ہو گیا کیونکہ اس میں شک نہیں کہ افعال مذکورہ سے قدرت کا سلب کرنا عین مذہب معتزلہ ہے اور افعال مذکورہ پر قدرت تو ہو مگر باختیار خود ان کا وقوع نہ کیا جائے، یہ قول مذہب اشاعرہ کے زیادہ مناسب ہے بہ نسبت معتزلہ کے اور ظاہر ہے کہ اسی قول مناسب کو تنزیہ باری تعالیٰ میں زیادہ دخل بھی ہے۔ بے شک ظلم و سفہ و کذب سے باز رہنا باب تنزیہات سے ہے۔ ان قبائح سے جو

المذكورات من الظلم و السفه و الکذب من باب التنزیهات عما لا یلیق بجناب قدسه تعالى فلیسیر بالبناء للمفعول ای یختبر العقل فی ان ای الفصلین ابلغ فی التنزیه عن الفحشاء اهو القدرة علیه ای علی ما ذکر من الامور الثلاثة مع الامتناع ای امتناعه تعالى عنه مختارا لذلك الامتناع او الامتناع ای امتناعه عنه لعدم القدرة علیه فیجب العول بادخل القولین فی التنزیه وهو القول البیق بمذهب الاشاعرة اه

اس مقدس ذات کے شایان نہیں پس عقل کا امتحان لیا جاتا ہے کہ دونوں صورتوں میں کس صورت کو حق تعالیٰ کے تنزیہ عن الفحشاء میں زیادہ دخل ہے۔ آیا اس صورت میں کہ ہر سہ افعال مذکورہ پر قدرت تو پائی جائے مگر باحتیاط و ارادہ ممتنع الوقوع کہا جائے زیادہ تنزیہ ہے یا اس طرح ممتنع الوقوع ماننے میں زیادہ تنزیہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ان افعال پر قدرت ہی نہیں پس جس صورت کو تنزیہ میں زیادہ دخل ہو اس کا قائل ہونا چاہیے اور وہ وہی ہے جو اشاعرہ کا مذہب ہے یعنی امکان بالذات و امتناع بالاختیار۔

(۴) وفي حواشی الکلبنوی علی شرح العقائد العضدية للمحقق الدوانی رحمهما الله تعالى مانصه وبالجملة کون الکذب فی الکلام اللفظی قبیحا بمعنی صفة نقص ممنوع عند الاشاعرة ولذا قال الشریف المحقق انه من جملة الممكنات وحصول العلم القطعی لعدم وقوعه فی کلامه تعالى باجماع

(۴) محقق دوانی کی شرح عقائد عضدیہ کے حاشیہ کلبنوی میں اس طرح منصوص ہے خلاصہ یہ ہے کہ کلام لفظی میں کذب کا بایں معنی قبیح ہونا کہ نقص و عیب ہے اشاعرہ کے نزدیک مسلم نہیں اور اسی لیے شریف محقق نے کہا ہے کہ کذب مجملہ ممکنات کے ہے اور جب کہ کلام لفظی کے مفہوم کا علم قطعی حاصل ہے اس طرح کہ کلام الہی میں وقوع کذب نہیں ہے اور اس پر علماء انبیاء علیہم السلام کا اجماع ہے تو کذب کے ممکن بالذات ہونے کے منافی نہیں جس طرح جملہ علوم عادیہ قطعیہ باوجود

العلماء والانبیاء علیہم السلام  
لا ینافی امکانہ فی ذاته کسائر العلوم  
العادیة القطعیة وهو لا ینافی ما ذکره  
الامام الرازی الخ

(۵) وفي تحرير الاصول لصاحب  
فتح القدير الامام ابن الهمام وشرحه  
لابن امير الحاج رحمهما الله تعالى  
مانصه وحينئذ اى وحين كان  
مستحيلا عليه ما ادرك فيه نقص  
ظهر القطع باستحالة اتصافه اى الله  
تعالى بالكذب ونحوه تعالى عن  
ذلك وايضا لو لم يمتنع انصاف  
فعله بالقبح يرتفع الامان عن صدق  
وعده وصدق خبر غيره اى الوعد منه  
تعالى وصدق النبوة اى لم يجزم  
بصدقه اصلا وعند الاشاعرة كسائر  
الخلق القطع بعدم اتصافه تعالى بشئى  
من القبائح دون الاستحالة العقلية  
كسائر العلوم التى يقطع فيها بان  
الواقع احد النقيضين مع عدم استحالة  
الاخر لو قدر انه الواقع كالقطع بمكة  
وبغداد اى بوجودهما فانه لا يحيل  
عدمهما عقلا وحينئذ اى وحين كان  
الا مر على هذا لا يلزم ارتفاع الامان  
لانه لا يلزم من جواز الشئى عقلا عدم

امكان كذب بالذات حاصل هو اكرتے ہیں اور یہ  
امام رازی کے قول کا مخالف نہیں الخ۔

(۵) صاحب فتح القدير امام ابن ہمام کی تحریر الاصول  
اور ابن امیر الحاج کی شرح تحریر میں اس طرح  
منصوص ہے اور اب یعنی جب کہ یہ افعال حق تعالیٰ  
پر محال ہو جائے جن میں نقص پایا جاتا ہے ظاہر ہو گیا  
کہ اللہ تعالیٰ کا کذب وغیرہ کے ساتھ متصف ہونا  
یقیناً محال ہے نیز اگر فعل باری کا فتح کے ساتھ  
اتصاف محال نہ ہو تو وعدہ اور خبر کی سچائی پر اعتماد نہ  
رہے گا اور نبوت کی سچائی یقینی نہ رہے گی اور اشاعرہ  
کے نزدیک حق تعالیٰ کا کسی قبح کے ساتھ یقیناً  
متصف نہ ہونا ساری مخلوقات کی طرح (بالاختیار)  
ہے عقلاً محال نہیں چنانچہ تمام علوم جن میں یقین ہے  
کہ ایک نقيض کا وقوع ہے وہاں دوسری نقيض محال  
ذاتی نہیں کہ وقوع مقدر نہ ہو سکے مثلاً مکہ اور بغداد کا  
موجود ہونا یقینی ہے مگر عقلاً محال نہیں ہے کہ موجود نہ  
ہوں اور اب یعنی جب یہ صورت ہوتی تو امکان  
کذب کے سبب اعتماد کا اٹھنا لازم نہ آئے گا اس  
لیے کہ عقلاً کسی شے کا جواز مان لینے سے اس کے  
عدم پر یقین نہ رہنا لازم نہیں آتا اور یہی استحالة وقوعی  
وامکان عقلى کا خلاف (معتزلہ اور اہل السنۃ میں)  
ہر نقيض میں جاری ہے کہ حق تعالیٰ کو ان پر قدرت ہی

الجزم بعد مه والخلاف الجارى فى  
الا استحالة و الامكان العقلى جار فى  
كل نقيضه قدرته تعالى عليها مسلوبة  
ام هي اى النقيضة بها اى بقدرته  
مشمولة و القطع بانه لا يفعل اى و  
الحال القطع بعدم فعل تلك النقيضة  
الخ ومثل ما ذكرناه عن مذهب  
الاشاعرة ذكره القاضى العضا فى  
شرح مختصر الاصول واصحابه  
الحواشى عليه و مثله فى شرح  
المقاصد و حواشى المواقف للچلبى  
وغیره وكذلك صرح به العلامة  
القوشجى فى شرح التجريد والقونوى  
وغیرهم اعرضنا عن ذكر نصوصهم  
مخافة الا طناب و السامة واللہ  
المتولى للرشاد و الهداية.

نہیں (جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے) یا نقيض کو  
قدرت حق تعالیٰ شامل ضرور ہے مگر ساتھ ہی اس کے  
یقین ہے کہ کرے گا نہیں (جیسا کہ اہل السنۃ کا قول  
ہے) یعنی اس نقيض کے عدم فعل کا یقین ہے اور  
اشاعرہ کا مذہب جو ہم نے بیان کیا ہے اور ایسا ہی  
قاضی عضا نے شرح مختصر الاصول میں اور اصحاب  
حواشی نے حاشیہ پر اور ایسا ہی مضمون شرح مقاصد  
اور چلبی کے حواشی مواقف وغیرہ میں مذکور ہے اور  
ایسی ہی تصریح علامہ قوشجی نے شرح تجرید میں اور  
قونوی وغیرہ نے کی ہے جن کی نصوص بیان کرنے  
سے تطویل کے اندیشہ سے ہم نے اعراض کیا اور  
حق تعالیٰ ہی ہدایت کا متولی ہے۔

### السؤال السادس والعشرون

ماقولكم فى القاديانى الذى يدعى  
المسيحية والنبوة فان اناسا ينسبون  
اليكم حبه و مدحه فالمرجو من  
مكارم اخلاقكم ان تبينوا لنا هذه  
الامور بيانا شافيا ليتضح صدق  
القائلين وكذبهم ولا يبقى الريب  
الذى حدث فى قلوبنا من تشويشات

### چھبیسواں سوال

کیا کہتے ہو قادیانی کے بارے میں جو مسیح و نبی  
ہونے کا مدعی ہے کیوں کہ لوگ تمہاری طرف نسبت  
کرتے ہیں کہ اس سے محبت رکھتے اور اس کی  
تعریف کرتے ہو، تمہارے مکارم اخلاق سے امید  
ہے کہ ان مسائل کا شافی بیان لکھو گے تاکہ قائل کا  
صدق و کذب واضح ہو جائے اور جو شک لوگوں کے  
مشوش کرنے سے ہمارے دلوں میں تمہاری طرف

الناس.

## الجواب

جملة قولنا و قول مشائخنا في القادياني الذي يدعى النبوة والمسيحية انا كنا في بدء امره مالم يظهر لنا منه سوء اعتقاد بل بلغنا انه يؤيد الاسلام ويبطل جميع الاديان التي سواه بالبراهين والدلائل نحسن الظن به على ما هو اللائق للمسلم بالمسلم و ناول بعض اقواله ونحمله على محمل حسن ثم انه لما ادعى النبوة والمسيحية وانكر رفع الله تعالى المسيح الى السماء وظهر لنا من خبث اعتقاده و زندقته افنى مشائخنا رضوان الله تعالى عليهم بكفره وفتوى شيخنا و مولنا رشيد احمد الجنجوهي رحمه الله في كفر القادياني قد طبعت وشاعت يوجد كثير منها في ايدي الناس لم يبق فيها خفاء الا انه لما كان مقصود المبتدعين تهيج سفهاء الهند و جهالهم علينا وتنفير علماء الحرمين و اهل فتيا هما و قضا تهما و

سے پڑ گیا ہے وہ باقی نہ رہے۔

## جواب

ہم اور ہمارے مشائخ سب کا مدعی نبوت و مسیحیت قادیانی کے بارے میں یہ قول ہے کہ شروع شروع میں جب تک اس کی بدعتیگی ہمیں ظاہر نہ ہوئی بلکہ یہ خبر پہنچی کہ وہ اسلام کی تائید کرتا ہے اور تمام مذاہب کو بدلائل باطل کرتا ہے تو جیسا کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ زیبا ہے، ہم اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے اور اس کے بعض ناشائستہ اقوال کو تاویل کر کے محمل حسن پر حمل کرتے رہے، اس کے بعد جب اس نے نبوت و مسیحیت کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کا منکر ہوا اور اس کا خبیث عقیدہ اور زندیق ہونا ہم پر ظاہر ہوا تو ہمارے مشائخ نے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ قادیانی کے کافر ہونے کی بابت ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ تو طبع ہو کر شائع بھی ہو چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کے پاس موجود ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں مگر چونکہ مبتدعین کا مقصود یہ تھا کہ ہندوستان کے جہلاء کو ہم پر برا فروختہ کریں اور حرمین شریفین کے علماء و مفتی و اشراف و قاضی و رؤسا کو ہم پر تنفر بنائیں کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ اہل عرب ہندی زبان اچھی طرح نہیں جانتے بلکہ ان تک ہندی رسائل و کتابیں پہنچتی بھی نہیں اس لیے ہم پر جھوٹے

اشرافہما منا لانہم علموا ان العرب لا یحسنون الہندیۃ بل لا یبلغ لدیہم الکتب والرسائل الہند افتروا علینا ہذہ الاکاذیب فاللہ المستعان و علیہ التوکل وبہ الاعتصام ہذا و الذی ذکرنا فی الجواب ہو ما نعتقدہ و ندین اللہ تعالیٰ بہ فان کان فی رایکم حقا و صوابا فاکتبا علیہ تصحیحکم و زینوہ بختمکم و ان کان غلطاً و باطلاً فدلونا علی ما ہو الحق عندکم فانا ان شاء اللہ لا نتجاوز عن الحق وان عن لنا فی قولکم شبہة نراجعکم فیہا حتی یتظہر الحق ولم یبق فیہ خفاء و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد سید الاولین والاخرین و علی آلہ و صحبہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین قالہ بفمہ ورقمہ بقلمہ خادم طلبة علوم الاسلام کثیر الذنوب و الاثام الاحقر خلیل احمد و فقہ اللہ التزود لغد

یوم الانین ثامن عشر من شهر شوال ۱۳۲۵ھ

تمت

افتراء باندھے سو خدا ہی سے مدد رکارت ہے اور اسی پر اعتماد ہے اور اسی کا تمسک جو کچھ ہم نے عرض کیا یہ ہمارے عقیدے ہیں اور یہی دین و ایمان ہے سو اگر آپ حضرات کی رائے میں صحیح و درست ہوں تو اس پر تصحیح لکھ کر مہر سے مزین کر دیجئے اور اگر غلط و باطل ہوں تو جو کچھ آپ کے نزدیک حق ہو وہ ہمیں بتائیے۔ ہم انشاء اللہ حق سے تجاوز نہ کریں گے اور اگر ہمیں آپ کے ارشاد میں کوئی شبہ لاحق ہوگا، تو دوبارہ پوچھ لیں گے یہاں تک کہ حق ظاہر ہو جائے اور خفا نہ رہے اور ہماری آخری پکار یہ ہے کہ سب تعریف اللہ کو زیبا ہے جو پالنے والا ہے تمام جہان کا اور اللہ کا درود و سلام نازل ہو اولین و آخرین کے سردار محمد ﷺ پر اور ان کی اولاد و صحابہ و ازواج و ذریات سب پر۔ زبان سے کہا اور قلم سے لکھا، خادم الطلہ کثیر الذنوب و الاثام حقیر خلیل احمد نے، خدا ان کو توشہ آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ ۱۸ شوال ۱۳۲۵ھ تمام شد

چونکہ یہ رسالہ عربیہ تصادیق علماء ہندوستان سے مکمل کرانے کے بعد جازومصر وشام کے بلاد اسلامیہ میں بھیجا گیا تھا، اس لیے اول علماء ہند کی تحریرات درج کی جاتی ہیں:

تصدیق ائین قدوة العارفين زبدة المحمد شين حضرت مولانا الحاج  
المولوى محمود حسن صاحب محدث دامت فضايلهم

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله عالم الغيب والشهادة والصلوة والسلام على من قال ان احسن الظن من العبادة وعلى اله واصحابه هم سادة للامة وقادة وبعد فقد تشرقت بمطالعة المقالة التي رصفها المولى العلام مقدم علماء الانام مولانا المولوى خليل احمد لا زال فيوضه منسجمة على السهول والاكام فله دره ولا مثل عشرة قد اتى بالحق الصريح وازال عن اهل الحق الظن القبيح وهو معتقدنا معتقد مشائخنا جميعا لاريب فيه فانا به الله تعالى جزاء عنائه في ابطال وساوس الحاسد في افتراءه فقط محمود عفى عنه المدرس الاول في مدرسة ديوبند.

ہر قسم کی تعریف زیبا ہے اللہ کو جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے اور درود و سلام اس ذات پر جس نے فرمایا ہے کہ اچھا گمان رکھنا بھی عبادت ہے اور ان کی اولاد و اصحاب پر جو امت کے سردار و پیشوا ہیں اس کے بعد عرض ہے کہ میں اس رسالہ کے ملاحظہ سے مشرف ہوا جس کو مولانا العلام و پیشوائے علماء انام مولانا مولوی خلیل احمد صاحب نے لکھا ہے، ان کے فیوض ہمیشہ جاری رہیں ہر نشیب و فراز پر۔ سو اللہ ہی کے لیے ہے ان کی خوبی، واقعی حق صریح بیان کیا اور اہل حق سے بدگمانی زائل فرمائی اور یہی ہمارا اور ہمارے جملہ مشائخ کا عقیدہ ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ پس حق تعالیٰ مصنف کو اس محنت کی جزا عطا فرمائے جو حاسد کی افتراء پر دازی کے وسوسوں کے باطل کرنے میں انہوں نے کی ہے۔

(طبع الخاتم)

تحریر متین سید العلماء صفوة الصلحاء حضرت مولانا الحاج میر احمد  
حسن صاحب امر وہی قدس اللہ سرہ

لله در المجيب اللبيب حيث اتى بتحقيقات منيفة وتدقيقات بدیعة فى كل مسألة وباب و ميز القشر عن اللباب وكشف قناء الريب والبطالان عن وجوه خرائد الحق والصواب كيف لا و المجيب المحقق المحقق هو مورد انعامه و افضاله و مقدم المحققين فى اقرانه وامثاله فالحق انه ادامه الله تعالى و ابقاه اصاب فى ما افاد وفى كل ما اجاب اجاد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو حق صريح لا ريب فيه فهذا هو الحق وماذا بعد الحق الا الضلال وكل ذلك هو معتقدنا ومعتقد مشائخنا وسادتنا اماننا الله عليه وحشرنا مع عباده المخلصين المتقين وبوانا فى جوار المقربين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين امين فامين فمن تقول علينا او على مشائخنا العظام بعض الاقاويل فكلها فرية بلا مرية والله يهدينا وياهم الى صراط مستقيم وهو تعالى و تقدس بكل

خدا کے لیے ہے عاقل مجیب کی خوبی کہ مستحکم تحقیقات و عجیب و بارکیاں ہر مسئلہ اور باب میں بیان کی، اور چھلکے کو مغز سے جدا کیا اور شک و بطلان کے گھونگٹ حق اور صواب کے چہروں سے کھول دیئے۔ کیونکہ نہ ہو مجیب محقق وہ شخص ہے جو حق تعالیٰ کے انعام و افضال کا مورد اور محققین زمانہ میں پیشوا ہے۔ پس حق یہ ہے کہ خدا ان کو دائم و باقی رکھے کہ جو کچھ لکھا صواب لکھا اور جو جواب دیا ایسا عمدہ دیا کہ باطل نہ اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، اور یہی حق صریح ہے جس میں شک نہیں پس یہی حق ہے اور حق کے بعد بجز گمراہی کے کیا رہا اور یہ سب ہمارا اور ہمارے مشائخ اور پیشویان کا عقیدہ ہے، حق تعالیٰ ہم کو اسی پر موت دے اور اپنے مخلص پر نیز گار بندوں سے ساتھ محشور فرمادے اور انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین مقرب بندوں کے ہمسایہ میں جگہ عطا فرمائے آمین، آمین۔ پس جس نے ہم پر یا ہمارے باعظمت مشائخ پر کوئی قول جھوٹ باندھا تو وہ بلاشبہ افتراء ہے اور اللہ ہم کو اور ان کو راہ مستقیم دکھائے اور وہ ہی حق تعالیٰ ہر

شیء خبیر وعلیم و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین و الصلوة والسلام علی خبیر خلقه و صفوة انبیائه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وانا العبد الضعیف النحیف خادم الطلبة احقر الزمن احمد حسن الحسینی نسباً و الامروہی مولداً و موطناً و الجشتی الصابری و النقشبندی المجددی طریقة و مشرباً و الحنفی الماتریدی مسلکاً و مذہباً

شے سے باخبر اور واقف ہے اور آخر پکاریا ہے کہ سب تعریف اللہ کو جو رب العالمین ہے اور درود و سلام ہو بہترین خلق خلاصہ انبیاء سیدنا و مولانا محمد ﷺ اور ان کے آل و اصحاب پر اور سب پر۔ میں ہوں بندہ ضعیف خادم الطلبة، احقر الزمن، احمد حسن حسینی نبیاً امر وہی مولداً و موطناً چشتی صابری، نقشبندی مجددی طریقتہ و مشرباً، حنفی ماتریدی مسلکاً و مذہباً۔ (طبع الخاتم)

تحریر شریف عمدۃ الفقہاء و اسوۃ الاصفیاء حضرت مولانا الحاج المولوی عزیز الرحمن صاحب مدت برکاتہم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم  
الحمد لله حق حمدہ و الصلوة والسلام الايمان الاكملان علی من لانبی من بعده اما بعد فيقول العبد المفتقر الى رحمة الرحيم المنان عزيز الرحمن عفا الله عنه المفتي و المدرس في المدرسة العالية الواقعة في ديو بند ان مانمقه العلامة المقدم البحر المقام المحدث الفقيه المتكلم النبيه الرحلة الامام قدوة

جملہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام تمام و کامل اس ذات پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں کہتا ہے رحیم و منان کی رحمت کا محتاج بندہ عزیز الرحمن عفا اللہ عنہ مفتی مدرس مدرسہ عالیہ واقع دیوبند جو کچھ تحریر فرمایا، علامہ پیشوا، دریائے موج محدث فقیہ متکلم، عاقل، مرجع، امام مقتدائے خلق جامع شریعت و طریقت واقف اسرار حقیقت کہ کھڑے ہوئے حق ظاہر کی مدد کے لیے اور اکھاڑ پھینکی شرک و بدعت کی بنیاد، مؤید من اللہ الاحد الصمد

الانام جامع الشريعة و الطریقة واقف رموز الحقیقة من قام لنصرة الحق المبین و قمع اساس الشرك و الاحداث فی الدین الموبد من اللہ الاحد الصمد مولانا الحاج الحافظ خلیل احمد المدرس الاول فی مدرسة مظاهر العلوم الواقعة فی السهارنפור حفظها اللہ من الشرور فی تحقیق المسائل هو الحق عندی و معتقدی و مشائخی فجازاه اللہ احسن الجزاء يوم القيام و رحم اللہ من احسن الظن بالسادات العظام واللہ تعالیٰ ولی التوفیق و بالحمد اولا و اخرا حقیق و هو حسبی و نعم الوکیل۔

مولانا الحاج حافظ خلیل احمد مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم واقع سہارنپور نے (خدا اس کو شرور سے محفوظ رکھے) مسائل کی تحقیق میں وہ سب حق ہے میرے نزدیک، اور میرا اور میرے مشائخ کا عقیدہ ہے۔ پس اللہ ان کو عمدہ جزا دے قیامت کے دن اور اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو سرداران بزرگ کی جانب اچھا لگمان رکھے اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اول و آخر حمد کا مستحق ہے اور وہ مجھ کو کافی ہے اور اچھا کار ساز ہے۔

اس کو لکھا بندہ عزیز الرحمن عفی عنہ دیوبندی نے۔

(نمبر)

کتبہ العبد عزیز الرحمن عفی عنہ دیوبندی۔

کلمات بابرکات طبیب الملت حکیم الامت حضرت مولانا الحاج الحافظ اشرف علی صاحب ادام اللہ فیوضہم

نقربہ و نعتقدہ و اکل امر المفتیرین الی اللہ وانا اشرف علی التهانوی الحنفی الجشتی ختم اللہ تعالیٰ له بالخیر۔

میں اس کا مقرر اور معتقد ہوں اور افتراء کرنے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی، اللہ خاتمہ بخیر فرمائے۔



## تصدیق لطیف شیخ الاتقیاء وسند الابراہیم حضرت مولانا الحاج الحافظ

الشاہ عبدالرحیم صاحب عمت مکارہم

الذی کتب فی هذه الرسالة حق  
صحيح وثابت في الكتب بنص  
صريح و هو معتقدی و معتقد  
مشائخي رضوان الله تعالى عليهم  
اجمعين احيانا الله بها واماتنا عليها  
وانا العبد الضعيف عبدالرحيم عفي  
عنه الراجح والخدم لحضرة مولانا  
الشيخ رشيد احمد جنجوهي قدس  
الله سره العزيز.

تسطير منير رئيس الحكماء امام الفضلاء حضرت مولانا الحاج الحكيم محمد حسن  
صاحب زيدت محاسنهم

الحمد لله المتوحد في جلال ذاته  
المتنزه عن شوائب النقص وسماته و  
الصلوة والسلام على سيدنا محمد  
نبيه و رسوله و على اله وصحبه  
اجمعين وبعد فهذا القول الذي نطق  
به الشيخ الاجل الا مجد والفرد  
الاكمل الاوحد مولانا الحاج الحافظ  
خليل احمد دام ظله الظليل على  
رؤس المسترشدين وابقاه الله تعالى  
لاحياء الشريعة والطريقة و الدين هو  
الحق عندنا و معتقدنا و معتقد مشائخنا

سب تعريفين الله کے لیے جو يکتا ہے اپنی ذات  
کے جلال میں، پاک ہے نقص کے شائبوں اور  
علامات سے اور درود و سلام سيدنا محمد ﷺ پر جو  
اس کے نبی و رسول ہیں اور ان کی سب اولاد  
واصحاب پر۔ اما بعد پس یہ تقریر جو شیخ اجل و امجد  
اور فرد اکمل و اوحد مولانا حاجی حافظ خليل احمد دام  
ظله علی رؤس المسترشدين نے فرمائی ہے، خدا ان  
کو شریعت و طریقت اور دین کے زندہ کرنے کے  
لیے قائم رکھے، حق ہے ہمارے نزدیک اور عقیدہ  
ہے ہمارا اور ہمارے مشائخ رضوان اللہ علیہم

رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الى  
يوم الدين وانا العبد الضعيف النحيف  
محمد حسن عفا الله عنه الديوبندی.

تحریر شریف جامع الکمال صادق الاحوال جناب مولانا الحاج  
المولوی قدرت اللہ صاحب بورک فی احوالہ

هذا هو الحق والصواب قدرت الله  
عفوله والوالديه مدرسه مراد آباد.  
یہی ہے حق اور صواب قدرت اللہ غفرلہ ولوالدیہ  
مدرس مدرسہ مراد آباد۔

تحریر مزیف صاحب الرائے الصائب ذوالفہم الثاقب حضرت مولانا  
الحاج المولوی حبیب الرحمن صاحب دامت فیوضہم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام  
على من لانبى بعده وبعد فما كتبه  
الشيخ الامام الحبر الهمام في جواب  
السوالات المذكورة هو الحق  
والصواب و المطابق لما نطق به  
السنة و الكتاب وهو الذي نتدين لله  
تعالى و به وهو معتقدنا و معتقد جميع  
مشائخنا رحمهم الله تعالى فرحم  
الله من نظرها بعين الانصاف واذ عن  
للحق و انقاد للصدق وانا العبد  
الضعيف حبیب الرحمن الديوبندی.

سب تعريفين الله يکتا کے لیے اور درود و سلام ان پر  
جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو کچھ لکھا ہے شیخ امام  
دانا سردار نے سوالات مذکورہ کے جواب میں،  
وہی حق اور صواب ہے اور اس کے مطابق ہے جو  
سنت و کتاب کہہ رہی ہیں اور ہم اس کو دین قرار  
دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور یہی عقیدہ ہے ہمارا  
اور ہمارے تمام مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کا۔ پس اللہ  
رحم فرمائے اس پر جو چشم انصاف دیکھے اور حق کا  
یقین لائے اور صدق کا مطیع ہو۔

حبیب الرحمن دیوبندی

## تحریر لطیف بقیۃ السلف قدوة الخلف حضرت مولانا الحاج المولوی محمد احمد صاحب انار اللہ برہانہ

ماکتبه العلامة وحید العصر هو الحق جو کچھ لکھا علامہ یکتائے زمانہ نے وہی حق اور  
والصواب۔

احمد بن مولانا محمد قاسم احمد بن مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ثم الديو  
النانوتوی ثم الديو بندي ناظم  
المدرسة العالية الديو بندي۔  
بندی مہتمم مدرسہ عالیہ دیوبند۔

## تحریر شریف حاوی الفروع والاصول جامع المعقول والمنقول مولانا الحاج المولوی غلام رسول صاحب مدظلہ

الحمد لله الذي قصرت عن وصف كماله السنة بلغاء الانام وضعفت عن  
الوصول الى ساحة جلاله اجنحة العقول والافهام والصلوة والسلام  
على افضل الرسل سيدنا محمد الهادي الى دار السلام و على اله  
واصحابه البررة الكرام ، اما بعد فالقول الذي نطق به في جواب  
السوالات المذكورة اكمل كماله الزمان و اعلم علماء الدوران وقدوة  
جماعة السالكين و زبدة مجامع المتقين مولانا الحافظ الحاج خليل  
احمد سلمه الله تعالى قول حق وكلام صادق وهو معتقدنا

سب تعریفیں اللہ کو زیبا ہیں کہ اس کے کمال کا  
وصف بیان کرنے سے مخلوق کے فصحاء کی زبانیں  
قاصر اور اس کی عظمت کے میدان تک پہنچنے سے  
عقول واقفام کے بازو عاجز ہیں اور درود و سلام  
افضل رسل سیدنا محمد ﷺ پر، اور ان کے آل و  
اصحاب نیکو کاران بزرگان پر۔ اما بعد یہ تقریر جو  
سوالات مذکورہ کے جواب میں کالمیں زمانہ میں  
اکمل، اور علماء وقت میں اعلم اور گروہ سالکین کے  
مقتداء اور جماعت ہائے متقین کے خلاصہ مولانا  
حافظ حاجی خلیل احمد صاحب نے فرمائی ہے، قول  
حق اور کلام صادق ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور  
ہمارے تمام مشائخ رحمہم اللہ کا عقیدہ ہے۔  
میں ہوں بندہ ضعیف

ومعتقد جميع مشائخنا رحمهم الله و معتقد جميع مشائخنا رحمہم اللہ  
تعالیٰ اجمعین. و انا العبد الضعیف مدرس مدرسہ عالیہ  
غلام رسول عفا الله عنه القوی دیوبند۔  
المدرس فی المدرسة العالیة  
الديو بنديہ۔

## تحریر مدینف فاضل عصر کامل دہر جناب مولانا المولوی محمد سہول صاحب لازل مجدہ

حامدا ومصليا ومسلما وبعد فهذه حامدا ومصليا ومسلما وبعد فهذه  
الاجوبة التي حررها رافع راية العلم والهداية خافض رايات الجهل و  
الضلالة سيد ارباب الطريقة سند اصحاب الحقيقة زبدة الفقهاء  
والمفسرين قدوة المتكلمين و المحدثين الشيخ الاجل الاوحد  
الحافظ الحاج مولانا خليل احمد لا زالت فيضانه على المسلمين  
والمسترشدين الى ابد حقيق بان يعتمد عليها كلها و يدين بها جلها  
وهو معتقدنا و معتقد مشائخنا و انا عبده الارذل محمد بن افضل المدعو  
بالسهول عفى عنه مدرس المدرسة العالیة الديو بنديہ۔

حمد صلوة و سلام کے بعد، یہ جوابات جن کو علم  
و ہدایت کے جھنڈوں کو اونچا کرنے والے اور  
جہل و گمراہی کے نشانوں کو نیچا کرنے والے اہل  
طریقت کے سردار اور اصحاب حقیقت کے مستند  
خلاصہ فقہاء و مفسرین، مقتدائے متکلمین و محدثین  
شیخ اجل اوحد حافظ حاجی مولانا خلیل احمد صاحب  
نے تحریر فرمایا ہے ان کے فیضان مسلمانوں اور  
طالبان ہدایت پر سدا قائم رہیں واقعی اس قابل  
ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے اور ان سب کو مذہب  
قرار دیا جائے، اور یہی عقیدہ ہے ہمارا اور  
ہمارے مشائخ کا۔

اور میں ہوں بندہ ارذل محمد  
بن افضل یعنی سہول عفی عنہ

مدرس مدرسہ عالیہ  
دیوبند۔

## تحریر لطیف عالم تحریر فاضل بے نظیر جناب مولانا المولوی عبد الصمد صاحب طاب اللہ ثراہ

الحمد لله الذي علم ادم الاسماء  
كلها واعطى صواعق النعوت و  
الصفات كلها وافاض علينا النعم  
الشوامخ قبل الاستحقاق وهدانا  
الصراط السوي مع تفرق السبل  
والشقايق ونصلي ونسلم على محمد  
عبدہ ورسوله الذي ارسل والحق  
خاملة اعوانه خاوية اركانه والباطل  
عالية نيرانه غالية اثمانه داعيا الى الله  
من كان كفر و امر بالمعروف ونهى  
عن غيره و زجر. وعلى اله البروة  
الكرام واصحاب الكملة العظام.  
الشافعين المشفعين في المحشر  
امابعد فالاجوبة التي حررها ربيع  
رياض الطريقة وبركة هذه الخليفة  
محي معالم الطريق بعدد روسها و  
مجدد مراسم المعارف غب افول  
اقما رها وشموسها الذي تفجرت  
ينابيع الحكم على لسانه. وفاضت  
عيون المعارف من خلال جنابه  
وانبت اشعة انواره في القلوب

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آدم کو تمام  
نام سکھائے اور عطا فرمائی ہم کو عالی نعمتیں استحقاق  
سے پہلے اور ہم کو دکھایا سیدھا راستہ مختلف و متفرق  
راستوں میں اور ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اس کے  
بندہ اور رسول محمد ﷺ پر جو ایسے وقت رسول  
بنے کہ حق کے مددگار ست اور ارکان مضحل  
ہو چکے تھے اور باطل کے شعلے بلند اور قیمت بڑھ  
گئی تھی۔ آپ نے بلایا اللہ کی طرف ہر کفر کرنے  
والے کو اور بھلے کام کی تاکید فرمائی اور منہج کیا برے  
کام سے اور روکا، اور آپ کی اولاد نیکو کار و مکرم اور  
صحابہ کالین باعظمت پر، جو محشر میں سفارش  
فرمائیں گے اور مقبول ہوگی (امابعد) جو ابات  
جن کو تحریر فرمایا ہے ایسی ذات نے جو باغبائے  
طریقت کی بہار اور مخلوق میں مبارک ہیں، زندہ  
کرنے والے راہ کے نشانوں کے ان کے مٹ  
جانے کے بعد اور معرفتوں کے مراسم کی  
تجدید کرنے والے، ان کے ماہتاب اور آفتاب  
غروب ہو جانے کے بعد کہ جاری ہیں حکمتوں کے  
چشمے ان کے وسط قلب سے اور پھیل رہی ہیں ان  
کے انوار کی شعاعیں دلوں میں اور پہنچ رہے ہیں  
ان کے اسرار کے لشکر ہر طالب و مطلوب تک اور

وبعثت سرايا اسراره الى كل طالب  
ومطلوب وسطعت شمس معارفه و  
زكت اعراس عوارفه. لازال الزهد  
شعاره. و الورع وقاره. والذکر انيسه  
و الفكر جليسه مولانا العلام و  
استاذنا الفهाम الشيخ الازهد و الهمام  
الامجد الحافظ الحاج بخليل احمد  
صدر المدرسين في مدرسة مظاهر  
العلوم الواقعة في السهارنفور حربة  
بان يعتقدھا اهل الحق واليقين ومقة  
بان سلمھا العلماء الراسخون في  
الدين المتين وهذه عقائدنا و عقائد  
مشائخنا ونحن نرجو من الله ان  
يحيينا ويميتنا عليها و يدخلنا في  
دار السلام مع اساتذتنا الكرام وهو  
نعم المولى ونعم المعين و اخر  
دعونا ان الحمد لله رب العلمين  
والصلوة والسلام على خير خلقه  
وفخر رسله واله وصحبه اجمعين  
الراقم الاثم محمد عبدالصمد عفا  
عنه الاحد البجنوری المدرس في  
المدرسة العالية الديوبندية اقامها الله  
وادامها الي يوم القيمة.

چمک رہے ہیں ان کی معرفتوں کے آفتاب اور  
آگے ہوئے ہیں ان کی معرفتوں کے درخت سدا  
رہے زہدان کا طریقہ اور تقویٰ ان کا لباس اور یاد  
حق ان کی مونس اور فکر حق ان کا ہم نشین،  
مولانا العلام اور ہمارے استاذ فہیم شیخ صاحب زہد  
اور سردار بزرگ حافظ حاجی یعنی مولانا خلیل احمد  
مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور (یہ  
سارے جوابات اس لائق ہیں) کہ اہل حق ان کو  
عقیدہ بنائیں اور مستحق ہیں کہ دین متین میں  
مضبوط علماء ان کو تسلیم کریں اور یہی ہمارے عقائد  
اور ہمارے مشائخ کے عقیدے ہیں اور ہم متنی  
ہیں اللہ سے کہ انہیں پر جلائے اور مارے اور ہم کو  
داخل فرمائے جنت میں ہمارے بزرگ استاذ کے  
ساتھ اور یہی بہتر کار ساز اور بہتر مددگار ہے، اور  
آخری دعا ہماری یہ ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ  
رب العلمین کو اور درود و سلام بہترین مخلوق و فخر  
پیغمبران پر اور ان کی ساری اولاد و اصحاب پر۔  
راقم آثم محمد عبدالصمد عفا عنہ الاحد مدرس مدرسہ  
عالیہ دیوبند، خدا اس کو تاقیامت دائم قائم رکھے۔

تحریر شریف شمس فلک الشریعة البیضاء و بدر السماء الطريقة الغرا حضرت  
مولانا الحاج الحکیم محمد اسحق صاحب نہٹوری سقاہ اللہ  
بالرحیق المختوم

للہ درالمجیب المحقق المصیب اللہ کے لیے ہے خوبی حق و صواب جوابات دینے  
صدقہت بما فیہ بلا شک مرید والے کی۔ جو کچھ اس میں ہے بلا شک و ریب  
الاحقر محمد اسحق النهثوری ثم تصدیق کرتا ہوں۔  
احقر محمد اسحق نہٹوری ثم الدہلوی۔

تحریر منیف ذرۃ سنام الدین و عروۃ الجبل المتین جناب مولانا  
الحاج المولوی ریاض الدین صاحب اطال اللہ بقاۃ

اصاب من اجاب  
محمد ریاض الدین عفی عنہ مدرس محمد ریاض الدین عفی عنہ مدرس مدرسہ عالیہ میرٹھ۔  
مدرسہ عالیہ میرٹھ۔

تحریر لطیف ربیع ریاض الاسلام مقتدائے انام جناب مولانا المفتی  
کفایت اللہ صاحب عمت فیونہم

رأیت الاجوبۃ کلها فوجدتها حقة  
صریحة لا یحوم حول سرادقاتها  
شک ولا ریب. وهو معتقدی و  
معتقد مشائخی رحمہم اللہ تعالیٰ  
وانا العبد الضعیف الراجی رحمة  
مولاه المدعو بکفایت اللہ  
الشاهجہانفوری الحنفی المدرس فی  
المدرسة الامینیة الدہلویة۔

جہان پوری حنفی مدرس مدرسہ  
امینیہ دہلی

تحریر شریف جامع العلوم النقلیہ و الفنون العقلیہ جناب مولانا  
المولوی ضیاء الحق صاحب زید فضلہ العظیم

اصاب من اجاب  
العبد ضیاء الحق عفی عنہ المدرس بندہ ضیاء الحق عفی عنہ مدرس مدرسہ امینیہ دہلی۔  
فی المدرسہ الامینیة الدہلویة۔

تحریر شریف جامع العلوم النقلیہ و الفنون العقلیہ جناب مولانا  
المولوی محمد قاسم صاحب زید فضلہ العظیم

الجواب صحیح  
العبد محمد قاسم عفی عنہ المدرس بندہ محمد قاسم عفی عنہ مدرس مدرسہ امینیہ۔  
فی المدرسہ الامینیة الدہلویة۔  
دہلی

تحریر منیف ذوالفضل و الفضائل عمدۃ الاقران و الامثال جناب مولانا  
الحاج المولوی عاشق الہی صاحب مولوی فاضل کثر اللہ امثالہ

الحمد لله الذي هدانا للاسلام و ما كنا  
لنهدى لو لا ان هدانا الله و الصلوة  
و السلام على خير البرية سيد محمد  
واله الى يوم نلقاه و بعد فاني تشرفت  
بمطالعة المقالة الشريفة التي نمقها  
الامام الهمام الابلج الاكمل الاوحد  
سيدنا و مولانا الحافظ الحاج  
المولوى خليل احمد ادامہ الله

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو  
اسلام کا راستہ دکھایا اور ہم ہدایت نہ پاسکتے اگر اللہ  
ہم کو ہدایت نہ دیتا اور درود و سلام بہترین مخلوقات  
سیدنا محمد ﷺ اور ان کی آل پر قیامت تک۔ میں  
اس مقالہ شریفہ کے ملاحظہ سے شرف ہوا، جس کو  
پیشوا سردار معظم کامل یکتا ہمارے سردار اور مولیٰ  
حافظ حاجی مولوی خلیل احمد صاحب نے تحریر فرمایا  
ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سدا اسلام میں شرک کی بنیاد کا

لاساس الشرك فى الاسلام قاطعا وقامعا ولا بنية البدع فى الدين هادما وقالعا فى اجوبة الاستئلة هو الصدق والصواب والحق عندى بلا ارتياب هذا هو معتقدى ومعتقد مشائخى نقربه لسانا ونعتقده جنانا قلله در المجيب الاريب البحر القمقام و الحبر الفهام ثم لله دره قد اصاب فيما اجاب واجاد فيما افاد متعنا الله بطول حياته وبقائه وجزاه الله عنى وعن سائر اهل الحق خيرا جزاء عنائه فى ابطال وساوس المفتري فى افترائه وانا العبد الضعيف محمد المدعو بعاشق الهى الميرثهى عفا الله عنه.

تحرير لطيف ذوالمجد الفاخرو العلم الذاخرو الفهم الباهر والرشد الزاهر جناب مولوى سراج احمد صاحب دام فيضه

ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وانا الراجى الى الله الاحد محمد المدعوب سراج احمد المدرس فى المدرسة سردهنه.

تحرير شريف معدن معانم الاشفاق ومخزن محاسن الاخلاق جناب مولوى قارى محمد اسحق صاحب نصر الله بمنه

ماكتبه العلامة فهو حق صحيح بلا جو كچه علامه نے تحریر فرمایا ہے وہ بلا ریب حق صحیح ارتیاب العبد الضعیف محمد اسحق ہے۔ میرٹھی المدرس فى المدرسة بندہ ضعیف محمد اسحق میرٹھی مدرس الاسلامیة الواقعة فى بلدة میرٹھ.

تحریر منیف طبیب الامراض الروحانیة ومعالج الاستقام الجسمانیة جناب مولوى حکیم مصطفیٰ صاحب نفعنا اللہ وجودہ لوجودہ

انه لقول فصل وما هو بالهزل العبد بے شک یہ قول فیصل ہے اور بے معنی نہیں۔ بندہ محمد مصطفیٰ البجنوری الطیب محمد مصطفیٰ بجنوری طبیب وارد حال میرٹھ۔ الوارد فى میرٹھ.

تحریر لطیف عین الانسان الكامل وانسان عیون الافاضل حضرت مولانا الحاج الحکیم محمد مسعود احمد صاحب متعنا اللہ بطول بقاءہ

العبد محمد مسعود احمد بن حضرت العبد محمد مسعود احمد بن حضرت مولانا رشید احمد مولانا رشید احمد جنجوهی۔ گنگوہی قدس سرہ العزیز۔

تحریر شریف منطقہ بروج الفضائل مطرح انظار السادة والافاضل جناب مولانا المولوى محمد یحییٰ صاحب ایدہ اللہ بروح القدس

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى تقدست ذاته الصمدية عن ان يماثل احد فى صفاته المختصة و ان كان من الانبياء بسم الله الرحمن الرحيم سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ذات بے نیاز مقدس ہے کہ اس کی صفات خاصہ میں کوئی اس کا ہم مثل ہو اگرچہ نبی ہی کیوں نہ ہوں اور اس کا

وترفعت قدرته من تطرف العقول والاراء والصلوة والسلام علی افضل من يتوسل به فی الدعاء من المرسلین و الصدیقین والشهداء والصلحاء و اکمل من یدعی من الاحیاء بعدالوصول و اللقاء وعلی اله واصحابه الذین هم اشداء علی الکفار و علی المومنین من الرحماء اما بعد فرأیت هذه الاجوبة فوجدتها قولا حقا مطابقا للواقع. وکلاما صادقا یقبله القانع والمانع. لاریب فیہ هدی للمتقین الذین یؤمنون علی الحق و یعرضون عن اباطیل الضالین المضلین. کیف لا وقد نمقها من هو محدد جهات العلوم النقلیة و العقلیة. ذروة سنام الصناعات العلویة و السفلیة. منطقة بروج الکمال و مطوقة لتصرف المبتدعین من الفرق الاثنی عشریة و غیرها من الانقلاب الی الاعتدال شمس فلک الولاية. بدرسماء الهدایة الذی اصبحت ریاض العلوم والهدایة بسحاب فیضه زاهرة. و امست حیاض الجهل والغویة بصواعق نغمته غائرة حامل

قدرت عالی ہے عقل اور رائے کے دخل سے درود و سلام ان میں بہترین ذات پر جن کو دعائیں وسیلہ پکڑا جاتا ہے۔ یعنی پیغمبران و صدیقین اور شہداء و صلحاء اور کامل جن کے لیے وصال و انتقال کے بعد حیات ثابت ہے اور ان کی اولاد و اصحاب پر جو کافروں پر سخت تر اور مسلمانوں پر مہربان تر ہیں۔ انا بعد میں نے یہ جوابات دیکھے تو ان کو پایا قول حق، واقع کے مطابق اور کلام راست، جس کو ہر قانع و مخالف قبول کرے اس میں شک نہیں ہدایت ہے پر ہیزگاروں کے لیے جو حق کو مانتے اور گمراہوں و گمراہ کرنے والوں کو واہیات سے منہ پھیرتے ہیں کیوں نہ ہو ان کو لکھا ہے انہوں نے جو نقلی و عقلی علوم کی اطراف کی حد بندی کرنے والے اور فنون عالی و سافل کے رفیع المرتبہ شخص ہیں بروج کمال کے منطقہ اور روافض و غیرہ مبتدعین کو انقلاب سے اعتدال کی جانب پھیرنے کے لیے بمنزلہ گرز، فلک و لایت کے آفتاب، آسمان ہدایت کے ماہتاب جن کے فیض کی گھاٹوں سے علم و ہدایت کے باغ لہلہا اٹھے اور جن کے غصہ کی بجلیوں سے جبل و گمراہی کے حوض پایاب بن گئے۔ روشن سنت کے علم بردار بدعت سیدہ شنیعہ کے اکھاڑنے والے ملت و دین کے رشید، طالبین کے لیے فیوضات کے قاسم، محمود زمانہ، جملہ اہل عصر میں اشرف، مسلمانوں کے

لواء السنة السنیة. قامع البدعة السیئة الشنیة رشید الملة والذین قاسم الفیوضات للمستفیضین. محمود الزمان. اشرف من جمیع الاقوان. مقتدی المسلمین محبتی العلمین حضرتنا و مرشدنا و و سیلتنا و مطاعنا مولانا الحافظ الحاج المولوی خلیل احمد لا زالت شمس فیوضاته بازغة للمقتبسین من انواره. و دامت اشعة برکاته ساطعة للسالکین علی خطواته و اثاره امین یارب العلمین.

مقتداء، پسندیدہ عالم، ہمارے حضرت و مرشد اور وسیلہ و مطاع مولانا حافظ حاجی مولوی خلیل احمد صاحب ان کے فیوضات کے آفتاب سدا ان کا نور لینے والوں کے لیے چمکتے رہیں اور ان کی برکات کی شعاعیں ان کے قدم بہ قدم چلنے والوں پر ہمیشہ چمکتی رہیں۔

آمین یارب العلمین۔

میں ہوں بندہ ضعیف حقیر محمد یحییٰ سہسرامی مدرس مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

وانا عبده الحقیر محمد المدعو یحییٰ السہسرامی المدرس فی مدرسة مظاہر علوم سہارنپور.

## تحریر مدنیف ناشر العلوم العربیہ و ماہر الفنون الادبیہ جناب مولانا المولوی کفایت اللہ صاحب زاد اللہ علمہ و رشدہ

الحمد لله الذی لاحیاء الا فی رضاه ولا نعیم الا فی قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح الا فی الاخلاص له و توحید حبه و الصلوة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله الذی ارسله علی حین فتره من الرسل فهدی به الی اقوم الطرق و اوضح السبل

جملہ تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ حیات اس کی رضا اور آسائش اس کے قرب میں منحصر ہے اور قلب کی صلاح و بہبودی اس کے اخلاص اور یکتائے محبت پر موقوف ہے۔ اور درود و سلام سیدنا و مولانا محمد ﷺ پر جو اس کے بندہ اور رسول ہیں کہ بھیجا ان کو پیغمبروں کے ختم ہو جانے پر پس ان کے ذریعہ سے سب سے بہتر راستہ اور واضح طریق

وعلى آله وصحبه العظام الذين هم قادة الابرار و قدوة الكرام. وبعد فهذه نميقة انيقة. و وجيزة و ثيقة الفها عمدة العلماء جهبذ الفضلاء الجامع بين الشريعة والطريقة. الواقف باسرار المعرفة والحقيقة الذى درس من المعارف والعلوم ما اندرس واحى مراسم الملة الحنيفة الرشيدية البيضاء بعد ما كادت ان تنطمس . كهف الكملاء خاتم الاولياء المحدث المتكلم الفقيه النبیه سیدی ومولائى الحافظ الحاج المولى خليل احمد لا زالت شمس افاضته بازغة وبدور افادته طالعة فله دره ثم لله دره حيث نطق بالصواب فى كل ماب وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهو يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم العبد الاواه محمد المدعو بكفايت الله جعل الله اخرته خيرا من اولاه الجنجوهى مسكنا مدرس مدرسة مظاهر العلوم الواقعة فى سهارنפור.

دکھلایا۔ اور ان کی اولاد باعظمت اصحاب پر جو سرداران، نیکوکاران و مقتدیان بزرگان ہیں۔ یہ تحریر پاکیزہ اور مختصر وثیقہ جس کو تالیف کیا عمدة العلماء سردار فضلاء جامع شریعت و طریقت واقف رموز معرفت و حقیقت نے کہ تعلیم دى معرفتوں اور علوم کی اس کے بعد کہ جو ہو گئے تھے اور جلایا چمکتی ملت حنیفہ رشیدیہ کے مراسم کو اس کے بعد کہ مٹ چلے تھے پناہ اہل کمال، مہر اولیاء محدث متکلم فقیر عاقل سیدی ومولائى حافظ حاجى مولانا غلیل احمد صاحب نے ان کے افاضے کے آفتاب چمکتے اور ان کے افادہ کے ماہتاب نکلتے رہیں۔ سو اللہ کے لیے ہے ان کی خوبی پس اللہ کے لیے ان کی خوبی کہ ہر باب میں صواب کہا اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ کی، اور نہ پھرنا ہے نہ طاقت مگر اللہ برتر باعظمت کے ہاتھ۔ بندہ اوامحمد کفايت اللہ، اللہ اس کی آخرت دنیا سے بہتر بنائے۔ گنگوہی بحیثیت سکونت مدرس مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

هذه خلاصة تصديقات السادة العلماء بمكة المكرمة

زادها الله تعالى شرفا و فضلا

یہ مکہ مکرمہ زادہا اللہ شرفاً و تعظیماً کے علماء کی تصدیقات کا خلاصہ ہے

صورة ماكتبه حضرة الشيخ الاجل و الفاضل الاجل امام العلماء ومقدم الفضلاء رئيس الشيوخ الكرام وسند الاصفياء العظام عين اعيان الزمان قطب فلک العلوم والعرفان حضرة مولانا الشيخ محمد سعيد بابصيل الشافعي شيخ العلماء بمكة المكرمة والامام والخطيب بالمسجد الحرام لزال محفوفا بنعم الملك العلام.

تقریظ مرقومہ شیخ اعظم صاحب فضیلت تامہ پیشوائے علماء و مقتدائے فضلاء مشائخ کرام کے سردار اور باعظمت اصفیاء میں مستند محترم اہل زمانہ و قطب آسمان علوم و معرفت جناب حضرت مولانا شیخ محمد سعید بابصیل شافعی شیخ علماء مکہ مکرمہ اور امام و خطیب مسجد حرام ہمیشہ شاہنشاہ علام کی نعمتوں سے گھرے رہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد فقد طالعت هذه الاجوبة للعلامة الفهامة المسطورة على الاسئلة المذكورة فى هذه الرسالة فرأيتها فى غاية الصواب شكر الله تعالى المجيب اخى و عزيزى الاوحد الشيخ خليل احمد دام الله سعده واجلاله فى الدارين وكسره رؤس الضالين و الحاسدين الى يوم الدين بجاه المرسلين. امين رقمه بقلمه

بعد (حمد و صلوة کے واضح ہو) میں نے بڑے زبردست و نہایت سمجھ دار عالم کے یہ جوابات جو سوالات مذکورہ کے متعلق انہوں نے لکھے ہیں غور کے ساتھ دیکھے۔ پس ان کو نہایت درجہ درست پایا، حق تعالیٰ جواب لکھنے والے میرے بھائی اور عزیز یکتا شیخ غلیل احمد کی تحریر مشکور فرمائے اور ان کی اصلاح و جلالت کو دارین میں دائم رکھے اور ان کے ذریعہ سے گمراہوں اور حاسدوں کے سروں کو قیامت تک بجاہ سید المرسلین توڑتا رہے

المرتجی من ربه کمال النیل محمد آئین لکھا ہے اپنے قلم سے امیدوار کمال نیل محمد سعید بن محمد بابصیل مفتی سعید خلف محمد بابصیل مفتی شافعیہ اور شیخ علماء مکہ الشافعیہ و رئیس العلماء بمکہ مکرمہ نے، اللہ ان کو اور ان کے دوستوں اور تمام المکرمة غفر الله له و لمجيبه و جميع المسلمين. (طبع الخاتم)

صورة ماكتبه حضرة الامام الجليل والفاضل النبيل منبع العلوم و مخزن الفهوم محي السنة الغراء ماحي البدعة الظلماء مولانا الشيخ احمد رشيد احمد الحنفی لازل منغمسافی بحار لطفه الجلی و الخفی.

تقریظ مسطور مقتدائے صاحب جلالت و فاضل با عظمت، چشمہ علوم و خزانہ فہوم، روشن سنت کے زندہ کرنے والے، تاریک بدعت کے مٹانے والے، مولانا شیخ احمد رشید حنفی، حق تعالیٰ کے لطف کے سمندر میں سدا غوطہ زن رہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله عالم الغيب و الشهادة سب تعریف اللہ کو زیبا ہے جو چھپے اور کھلے کا الكبير المتعال والصلوة والسلام جاننے والا بڑائی اور علو والا ہے اور درود و سلام سیدنا و نبینا و حبیبنا و مرشدنا و ہادینا ہمارے سردار نبی اور محبوب و مرشد اور ہادی و مولانا و اولنا محمد و صحبہ و الال. و مولا اور سب سے بہتر محمد ﷺ اور ان کے صحابہ و بعد فقد تتبعت هذه الاجوبة المنيفة و اولاد پر۔ میں نے ان لطیف مسائل شرعیہ کے الشرعیة و المسائل اللطيفة المرعية جوابات علیہ کو خوب غور سے دیکھا۔ جو ایسے شخص للعالم المفضل انسان عین الافاضل کے لکھے ہوئے ہیں جو بڑے صاحب فضل عالم عین الانسان الكامل صفوة الامائل اور فضلاء کی آنکھوں کی پتلی اور صاحب کمال بقية الاوائل قامع الشرك ماحي البدع مبیل اهل الزيغ و الضلال انسان کی آنکھ، ہمعصروں میں منتخب اور سلف کا سيف الله علی رقاب الماردة نمونہ ہیں، شرک کے اکھیڑنے والے، بدعتوں کے مٹانے والے کجی و گمراہی والوں کو تباہ کرنے

المبتدعة الضلال المحدث الوحيد والے اور بددین سرکش بدعتیوں کی گردنوں پر اللہ والفقیه الفرید سیدی و مولائی کی تلوار بنے ہوئے ہیں۔ محدث یگانہ اور فقیہ یکتا وملاذی حضرة الحافظ الحاج یعنی سیدی و مولائی و ملاذی حضرت حافظ حاجی شیخ الشیخ خلیل احمد لازال ولم یزل خلیل احمد صاحب حق تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ مؤیدا من مولانا ذی الجلال فلله ہمیشہ ان کی تائید ہوتی رہے پس اللہ ہی کے لیے درمن فاضل ادیب و عارف اریب ہے خوبی ان فاضل ادیب اور صاحب معرفت و متکلم لیبب حیث تصدی لحماية عاشق اور ماہر کلام دانا کی کہ شرع شریف کی حمایت اور دین مبین کی حفاظت اور مذہب حق کی نگہبانی کے لیے تیار ہوئے اور حق کا منارہ اونچا کر دیا، الحنیف و صیانة المذهب المنیف ہدایت کے نشان بلند کیے، اس کی بنیاد مضبوط کی، فاعلی منار الحق و رفع معالم الهدی اس کے ستون محکم کیے اور اس کی دلیل واضح و قوی بنیانه و تسید ارکانه و وضع برهانه فما احسن بیانه وما اطلق لسانه وما افصح بنیانه فلعمری لقد کشف الغطاء و ازال العماء و احجم العداء و البسهم ثوب الهوان و الردی و انار للمسترشدين سبل الهدی من الخبیث من الطیب و بین الحق و الصواب و وافق السنة و الکتب و اظهر العجب العجاب ان فی ذلك لذكری لا ولی الا لباب ازال ریب المرتا بین و فضح تلبیس الملبسین و فرق جمع المحرفین و شتت شمل المفسدین و بدد حزب الملحدين و فتت اکباد المبتدعين و كسر جند

والے اور بددین سرکش بدعتیوں کی گردنوں پر اللہ کی تلوار بنے ہوئے ہیں۔ محدث یگانہ اور فقیہ یکتا یعنی سیدی و مولائی و ملاذی حضرت حافظ حاجی شیخ خلیل احمد صاحب حق تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ان کی تائید ہوتی رہے پس اللہ ہی کے لیے ہے خوبی ان فاضل ادیب اور صاحب معرفت عاشق اور ماہر کلام دانا کی کہ شرع شریف کی حمایت اور دین مبین کی حفاظت اور مذہب حق کی نگہبانی کے لیے تیار ہوئے اور حق کا منارہ اونچا کر دیا، ہدایت کے نشان بلند کیے، اس کی بنیاد مضبوط کی، اس کے ستون محکم کیے اور اس کی دلیل واضح کر دی۔ کتنا سلیس بیان اور کتنی صاف زبان اور کیسی فصیح تقریر ہے کہ واقعی پردہ اٹھا دیا اور اندھا پن دور کر دیا دشمنوں کی زبان بند کر دی اور ان کو ذلت و ہلاکت کے کپڑے پہنا دیئے اور طالبان ہدایت کے لیے حق کے راستے روشن کر دیئے۔ گندے کو پاک سے جدا اور درست و صحیح کو ظاہر کر دیا، اور حدیث و قرآن کی موافقت کی اور عجیب مضامین بیان فرمائے۔ واقعی اس میں اہل عقل کے لیے پوری نصیحت ہے۔ اہل شک کا شک زائل کر دیا اور خلط ملط کرنے والوں کی گڑبڑ کھول دی۔ تحریف کرنے والوں کا گروہ منتشر بنا دیا اور فتنہ پردازوں کا اجتماع متفرق اور لمحوں کی جماعتوں کو تباہ کر دیا، بدعتیوں کے کلیجے پھاڑ



الضالین و ہزم افواج المضلین  
واہلک اعداء الدین و خذل  
المغیرین المبدلین و اخزی اخوان  
الشیاطین و ابطال عمل المشرکین  
فقطع دابر القوم الذین ظلموا  
والحمد لله رب العلمین. و کیف لا  
الا ان حزب الله هم الغلبون فلله دره  
ثم لله دره اجاب فاءبادو اصاب  
جزاه الله عن الاسلام والمسلین  
افضل الجزاء امین بجاہ سید  
المرسلین والحمد لله اولاً و اخری  
و باطنا و ظاهراً و صلی الله علی قرۃ  
اعیننا سیدنا محمد خاتم جمیع  
الانبیاء والہ وصحبہ ومن تبعہم و  
اھتدی بہدھم و سار علی منھجہم  
الی یوم الدین امین امین امین  
امین لا ارضی بواحدة حتی اضعیف  
الیہ الف امینا.

دیئے اور گمراہوں کے لشکر کو توڑ دیا اور گمراہ کرنے  
والوں کی سپاہ کو بھگا دیا، دین کے دشمن کو ہلاک اور  
تغیر و تبدل کرنے والوں کو خوار کیا۔ شیطان کے  
بھائیوں کو ذلیل بنایا اور مشرکوں کے کردار باطل  
کردیئے۔ پس تم گاروں کی جڑ ہی کٹ گئی۔ اللہ  
رب العلمین کا شکر ہے اور کیوں نہ ہو، اللہ کا گروہ  
ہمیشہ غالب ہی رہا ہے۔ پس اللہ کے لیے ہے  
مولانا کی خوبی کہ جو جواب دیا درست و صحیح دیا۔  
اللہ ان کو اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہتر  
جزا عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین اور اللہ ہی  
کو زیبا ہے ہر قسم کی تعریف اول و آخر اور ظاہر و  
باطن اور روز قیامت تک رحمت نازل فرمائے حق  
تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سیدنا محمد ﷺ پر جو  
تمام انبیاء کی مہر ہیں اور ان کی اولاد و صحابہ پر اور  
ان پر جو ان کے تابع ہیں اور ان کی روش اختیار  
کریں اور ان کی راہ چلیں اور ان کے طریقہ کا  
اتباع کریں اور ان کے راستے کو مسلک بنائیں۔  
آمین آمین آمین آمین آمین ایک بار آمین کہنے  
پر راضی نہ ہوں گا یہاں تک کہ ہزار بار آمین کہی  
جائے۔

قال بقمہ و کتبہ بقلمہ الفقیر الی ربہ  
التواب راجی رحمۃ اللہ الوہاب عبدہ  
وعابدہ احمد رشید خان نواب المکی  
عفی اللہ عنہ وعن والدیہ و تجاوز عن

کہا اپنی زبان سے اور لکھا قلم سے اپنے توابع  
پروردگار کے محتاج اور بخشش ہائے خدا کی رحمت کے  
امیدوار بندہ احمد رشید خاں نواب مکی نے اللہ ان کی  
اور ان کے والدین کی خطاؤں سے درگزر کرے اور

سیئاتہم بجاہ النبی الاواب شافع  
المدنیین یوم الحساب حرره یوم  
الخمیس التاسع عشر من شهر ذی  
الحجۃ الحرام الذی ہو من شہور  
السنة ۱۳۲۸ الثامنہ و العشرین بعد  
الثلاثائہ والالف من ہجرۃ من.  
لہ العزو الشرف علیہ افضل الصلوۃ  
واکمل السلام واتم التحیۃ امین!  
(طبع الخاتم)

معاف فرمائے بجاہ شفیع گناہ گاراں یہ یوم قیامت۔  
یوم پنجشنبہ ۱۹ ذی الحجہ ۱۳۲۸ھ نبوی۔  
(طبع الخاتم)

صورة ماکتبہ حضرۃ امام الاتقیاء السالکین و مقدم الفضلاء العارفین جنید  
زمانہ و اوانہ شبلی دھرہ و زمانہ مخدوم الانام منبع الفیوض للنحواس والعوام  
جناب الشیخ محب الدین المهاجر المکی الحنفی لازال بحر جودہ زاخرًا  
و بدر فیضہ لامعًا.

تفریظ مسطورہ پیشوائے اتقیاء سالکین و مقتدائے فضلاء، عارفین جنید زمانہ شبلی وقت مخدوم الانام  
چشمہ فیض برائے خواص و عوام جناب شیخ مولانا محبت الدین صاحب مہاجر مکی حنفی، ان کے سخا کا  
سمندر موجزن اور فیضان کا ماہتاب روشن رہے۔

## الاجوبۃ صحیحۃ

تمام جوابات صحیح ہیں

حرره خادم الولی الکامل حضرۃ  
الشیخ امداد اللہ علیہ رحمۃ اللہ  
محب الدین مهاجر مکة معظمة.  
نے۔

لکھا اس کو ولی کامل شیخ حاجی امداد اللہ صاحب  
قدس سرہ کے خادم محبت الدین مہاجر مکہ معظمہ  
نے۔

صورة ماكتبه رئيس الاتقياء الصالحين وامام الاولياء والعارفين مركز دائرة الفنون العربية وقطب سماء العلوم العقلية جناب الشيخ محمد صديق الافغانى المكى.

تفريظ جو تحریر فرمائی نیکو کار پر ہیزگاروں کے سردار اولیا اور عارفین کے پیشوا دائرہ فنون عربیہ کے مرکز اور آسمان علوم عقلیہ کے قطب جناب مولانا شیخ محمد صديق افغانى نے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى لا يغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما قال تعالى ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلنك عليهم وكيلا و الذى قال ومن كفر بالله وملئكة وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا والصلوة والسلام على من قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة قال ابوذر يارسول الله وان زنى وان سرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق على رغم انف ابى ذر لله علم الغيب والشهادة لانه من تلقاء ذاته تعالى فالله متكلم من تلقاء نفسه واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مخبر لما اوحى

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعریف اس اللہ کو جو شرک کو نہ بخشنے گا، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے بخش دے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے اگر چاہے تم پر رحم فرمائے اور اگر چاہے تم کو عذاب دے اور (اے محمد ﷺ) ہم نے تم کو لوگوں پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا اور فرمایا کہ جس نے کفر کیا، اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں اور یوم قیامت کا تو بے شک وہ پرلے درجہ کی گمراہی میں پڑا اور دو دوسلام اس ذات پر جس نے ظاہر فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہوا۔ حضرت ابوذرؓ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر چہ زنا اور چوری کرے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں اگر چہ زنا کرے اگر چہ چوری کرے، ابوذرؓ کو ناگوار ہو تو ہوا کرے۔ اللہ ہی کو علم ہے غائب و حاضر کا کیونکہ علم اس کا ذاتی ہے پس اللہ تعالیٰ متکلم ہے بذاتہ اور رسول اللہ ﷺ دینے والے ہیں جو آپ ﷺ کی طرف اللہ وحی فرماتا ہے خواہ جلی ہو یا خفی جیسا کہ

اليه جليا كان او خفيا كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى الذى كتب مولانا الشيخ خليل احمد فى هذه الرسالة فهو حق صحيح لا ريب فيه وما ذا بعد حق الا الضلال وهو معتقدنا ومعتقد مشائخنا رضوان الله تعالى عليهم اجمعين.

وانا العبد الضعيف محمد صديق الافغانى المهاجر.

ارشاد فرمایا حق تعالیٰ نے اور محمد نہیں بولتے خواہش نفس سے ان کا ارشاد تو بس وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ جو کچھ مولانا شیخ خلیل احمد صاحب نے اس رسالہ میں لکھا ہے وہ حق صحیح ہے جس میں کچھ شک نہیں اور حق کے بعد کچھ نہیں بجز گمراہی کے اور یہی عقیدہ ہے ہمارا اور ہمارے تمام مشائخ رضی اللہ عنہم کا۔ میں ہوں بندہ ضعیف محمد صديق افغانى مہاجر مکہ مکرمہ۔

چونکہ جناب شیخ العلماء حضرت محمد سعید باصیل تمام علماء مکہ مکرمہ زید شرفاً وفضلاً کے سردار اور ان کے امام ہیں لہذا ان کی تصدیق و تقریظ کے بعد کسی عالم کی علماء مکہ معظمہ میں سے تقریظ کی حاجت نہیں مگر تاہم مزید اطمینان کے واسطے جن بعض علماء مکہ مکرمہ کی تصدیقیں بلا جدوجہد حاصل ہوئیں وہ ثبت کر دی گئیں اور اسی وجہ سے اس وقت تک میں جو کہ بعد از حج قبل از روانگی مدینہ منورہ زید شرفاً وفضلاً جو تصدیقیں میسر ہوئیں انہیں پراکتفا کیا گیا۔ حالانکہ مخالفین نے اپنی سعی مخالف وغیرہ میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا تھا اور اسی وجہ سے جناب مفتی مالکیہ اور ان کے بھائی صاحب نے بعد اس کے کہ تصدیق کر دی تھی، مخالفین کی سعی کی وجہ سے اپنی تقریظ کو بحیلہ تقویت کلمات لے لیا اور پھر واپس نہ کیا۔ اتفاق سے ان کی نقل کر لی گئی تھی۔ سو ہدیہ ناظرین ہے:

تقریظ مولانا العلام الامام الہمام الفقیہ الزاہد والفاضل الماجد حضرت مولانا الشیخ محمد عابد مفتی المالکیہ ادام اللہ تعالیٰ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى وفق من شاء من عباده السادة الاتقياء لاقامة منار الدين يجمع كل منابذ لشریعة سيد المرسلين

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعریفیں اللہ کو جس نے اپنے متقی بندوں میں جس کو چاہا دین کا منارہ قائم رکھنے کی توفیق بخشی کہ شریعت محمدیہ کے ہر مخالف اور جھوٹی نسبت کرنے

صلی اللہ علیہ وسلم و علی الہ  
وصحبہ وکل منتم الیہ. اما بعد قد  
اطلعت بهذا التحریر وعلی جمیع ما  
وقع علی هذه الاسئلة الستة  
والعشرین من التقرير فوجدته هو  
الحق المبین وکیف لا وهو تقرير  
عضد الدین عصام الموحدين الا ان  
محمود تفسیره کشاف لایات  
التمکین فضلة الحاج خلیل احمد لا  
زال علی معراج الهدایة یصعد  
فلیسعد امین اللهم امین.

امر برقمه مفتی المالکیة حالابمكة  
المکرمة محمد عابد بن حسین.

والے کا قلع قمع کرے۔ اما بعد میں اس تحریر اور جو  
کچھ چھبیس سوالات پر تقریر ہوئی ہے سب پر مطلع  
ہوا تو میں نے اس کو لکھا ہوا حق پایا اور کیوں نہ ہو  
یہ تقریر ہے دین کے بازو مسلمانوں کے پناہ کی کہ  
جن کا عمدہ بیان آیات تمکین کا واضح کرنے والا  
یعنی بزرگ حاجی خلیل احمد صاحب ہدایت کی  
معراج پر سدا چڑھتے اور صاحب نصیب رہیں۔  
آمین آمین اللهم آمین۔

حکم کیا اسکے لکھنے کا محمد عابد بن حسین مفتی مالکیہ  
نے۔

(طبع الخاتم)

تقریظ الشیخ الابدج والحبیر الاکمل حضرة مولانا محمد علی بن حسین  
مالکی مدرس حرم شریف برادر مفتی صاحب ممدوح انار اللہ برہانہ.

الحمد لله على الاته والصلوة  
والسلام على سيد انبيائه سيدنا  
محمد وعلى اله الكرام واصحابه  
السادة القادة الاعلام. اما بعد فيقول  
العبد الحقير المالكي محمد على بن  
حسين احمد الامام والمدرس  
بالمسجد المكي اني وجدت ما حرره  
العالم العلامة المحقق الاوحد فضلة  
الحاج الحافظ الشيخ خليل احمد  
على هذه الاسئلة الستة والعشرين هو

تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اس نعمتوں پر اور درود  
وسلام سرداران نبیاء سیدنا محمد ﷺ اور ان کی اولاد  
کرام واصحاب عظام پر اما بعد! کہتا ہے بندہ حقیر  
محمد علی بن حسین احمد مالکی مدرس وامام مسجد حرام کہ  
علماء محقق یگانہ مولوی حاجی حافظ شیخ خلیل احمد نے  
ان چھبیس سوالوں پر جو کچھ لکھا ہے، تمام محققین  
کے نزدیک وہی حق ہے کہ باطل نہ اس کے آگے  
سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے پس اللہ ان کو جزائے  
خیر دے اور ہمیں اور ان کو ہمیشہ نیک اعمال اور

الحق الذي لا ياتيه الباطل من بين

يديد و لا من خلفه عند جميع

المحققين فجزاه الله تعالى خیر

الجزاء و وفقنا و اياه دائما لصالح

الاعمال الحميدة وحسن الشناء امين

اللهم امين!

كتبه الامام المدرس بالمسجد

المكي محمد علی ابن حسین

المالکی۔

حسن ثناء کی توفیق بخشے۔

آمین اللهم آمین!

لکھا محمد علی بن حسین مالکی مدرس وامام مسجد کی

نے۔

(طبع الخاتم)

## خلاصہ تصادیق علماء مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً وتَعْظیماً

سب سے اول امام فقہاء زمانہ و رئیس محدثین وقت، مرکز علوم عقلیہ، منبع معارف نقلیہ، قطب فلک تحقیق و تدقیق، شمس سماء الامانت و التصدیق حضرت مولانا سید احمد برزنجی شافعی سابق مفتی آستانہ نبویہ دامت فیوضہم کے رسالہ کا مخلص تین مقام سے لکھتے ہیں:

وقد كتب الفاضل العالم في اول رسالته المسمى تثقيف الكلام مانصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي له الكمال المطلق في ذاته وصفاته المنزه عن الحدوث وسماته الحكيم في افعاله الصادق في اقواله عزته تعالى جده ووجب علينا شكره وحمده والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين وجعل وجوده نعمة عامة للاولين والآخرين وختم نبوته ورسالته نبوة الانبياء ورسالة المرسلين وعلى اله واصحابه وكل من تمسك بهديه الى يوم الدين اما بعد فقد قدم علينا بالمدينة المنورة والرحاب النبوة المطهرة جناب العلامة الفاضل والمحقق الكامل احد العلماء المشهورين بالهند الشيخ خليل احمد حين

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعریف زیبا ہے اللہ کو جس کے لیے اس کی ذات و صفات میں کمال مطلق ثابت ہے منزه ہے حدوث اور اس کی علامات سے، حکیم ہے اپنے افعال میں، سچا ہے اپنے اقوال میں، معزز ہے اس کی ثنا اور عالی ہے اس کی شان، واجب ہے ہم پر اس کا شکر اور اس کی حمد اور درود و سلام ہمارے سردار و مولانا محمد ﷺ پر جن کو بھیجا اللہ نے دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کر اور ان کا وجود بنایا تمام اگلے پچھلوں کے لیے نعمت اور ختم کیا ان کی نبوت و رسالت پر جملہ انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت کو، اور سلام ان کی اولاد و اصحاب اور تمام ان لوگوں پر جو ان کے طریقہ پر چلیں قیامت کے دن تک، اما بعد ہمارے پاس تشریف لائے مدینہ منورہ اور آستانہ نبویہ میں جناب علامہ فاضل اور محقق کامل ہند کے مشہور علماء میں سے ایک مولانا شیخ خلیل احمد صاحب بہترین خلق سید الانام و

تشرف بزيارة خير الانام سيد الانام والمرسلين العظام سيدنا ومولانا محمد عليه افضل الصلوة والتسليم کی زیارت سے مشرف ہونے کے وقت، اور ایک رسالہ پیش فرمایا جس میں ان سوالات کے جوابات تھے جو ان کے مذہب اور عقائد اور ان کے صاحب فضل مشائخ کے عقیدوں کی حقیقت و ماہیت ظاہر کرنے کے لیے ان کی جانب کسی عالم کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور شیخ ممدوح مجھ سے اس امر کے خواہاں ہوئے کہ میں ان جوابات میں نظر کروں چشم انصاف سے اور جن سے انحراف کرنے سے بچ کر اور زیادتی چھوڑ کر، پس میں نے ان کی خواہش کے موافق اور آرزو پوری کرنے کو ان اوراق میں جہاں تک میری نظر پہنچی وہ تحقیقات جمع کر دیں جن کو ان کے پیشوایان دین کے چراغ دان سے اخذ کیا ہے جن کا اقتداء کیا جاتا ہے، اللہ کی مضبوط رسی کے مضبوط تھامنے میں، اور میں نے اس کا نام کمال التثقیف والتقویم لعوج الافہام عما يجب لكلام الله القديم وسبب تسمیتی له بهذا الاسم ان الكلام على الاجوبة التي اجابها عن تلك الاسئلة وان كان متنوعا متعلقا باحكام شتى من الفروع و الاصول اهمها ما يتعلق بوجوب الصدق في كلام الله تعالى النفسى واللفظى ولهذه الاهمية قدمت العلام على هذا

مرسلین سیدنا و مولانا محمد علیہ افضل الصلوة و التسلیم کی زیارت سے مشرف ہونے کے وقت، اور ایک رسالہ پیش فرمایا جس میں ان سوالات کے جوابات تھے جو ان کے مذہب اور عقائد اور ان کے صاحب فضل مشائخ کے عقیدوں کی حقیقت و ماہیت ظاہر کرنے کے لیے ان کی جانب کسی عالم کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور شیخ ممدوح مجھ سے اس امر کے خواہاں ہوئے کہ میں ان جوابات میں نظر کروں چشم انصاف سے اور جن سے انحراف کرنے سے بچ کر اور زیادتی چھوڑ کر، پس میں نے ان کی خواہش کے موافق اور آرزو پوری کرنے کو ان اوراق میں جہاں تک میری نظر پہنچی وہ تحقیقات جمع کر دیں جن کو ان کے پیشوایان دین کے چراغ دان سے اخذ کیا ہے جن کا اقتداء کیا جاتا ہے، اللہ کی مضبوط رسی کے مضبوط تھامنے میں، اور میں نے اس کا نام کمال التثقیف والتقویم لعوج الافہام عما يجب لكلام الله القديم وسبب تسمیتی له بهذا الاسم ان الكلام على الاجوبة التي اجابها عن تلك الاسئلة وان كان متنوعا متعلقا باحكام شتى من الفروع و الاصول اهمها ما يتعلق بوجوب الصدق في كلام الله تعالى النفسى واللفظى ولهذه الاهمية قدمت العلام على هذا

جوابوں پر مقدم اور اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے اور اسی پر بھروسہ۔ اس کے بعد کلام لفظی و نفسی کی تحقیق اور اس میں صدق و کذب کی تشریح اور علماء مذہب کی تنقید و اختلاف نقل فرمائے۔

اور اپنے رسالہ شریفہ کے وسط میں پہلی بحث کے آخر میں یوں تحریر فرماتے ہیں: اور جب اے مخاطب تو اس شافی بیان پر مطلع ہو گیا اور کافی فہم سلیم کے ذریعہ سے اس کو سمجھ لیا تو معلوم کر لے گا کہ جو کچھ فاضل شیخ خلیل احمد نے تمہیں و چوبیس و پچیسویں سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے وہ موجود ہے بہتیرے معتبر اور متاخرین علماء کلام کی متداول کتابوں میں مثلاً مواقف اور مقاصد اور تجرید و مسائرہ وغیرہ کے شروحات میں اور خلاصہ ان جوابات کا جن کو شیخ خلیل احمد نے ذکر کیا ہے مذکورہ علماء کلام کی اس مضمون میں موافقت ہے کہ کلام لفظی میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعید اور سچی خبر کا خلاف کرنا حق تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے جو ان کے نزدیک امکان ذاتی کو مستلزم ہے مع اس امر کے جزم اور یقین کے کہ اس خلاف کا وقوع ہرگز نہ ہوگا اور اتنا کہنے سے نہ کفر لازم آتا ہے نہ عناد اور نہ دین میں بدعت اور فساد اور کیسے لازم آسکتا ہے حالانکہ تو معلوم کر چکا ہے کہ یہ مذہب بالکل موافق ہے ان کے جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں چنانچہ تو مواقف اور اس کی شرح وغیرہ کی عبارتیں جن کو ہم نے ابھی نقل کیا ہے

المبحث على الكلام على غيره من تلك الاجوبة بالله المستعان و منه التوفيق وعليه التكلان۔

وقال في وسط رسالته الشريفة في اخر المبحث الاول مانصه وبعد اطلاعك على هذا البيان الشافي وادراك له بالفهم السليم الكافي تعلم ان ما ذكره الفاضل الشيخ خليل احمد في جواب الثالث والعشرين و الرابع والعشرين والخامس والعشرين كلام معروف في كثير من الكتب المعتمدة المتداولة لعلماء الكلام المتأخرين كالمواقف و المقاصد و شروح التجريد و المسابرة وغيرها ومحصل تلك الاجوبة التي ذكرها الشيخ خليل احمد موافقة علماء الكلام المذكورين في مقدورته مخالفة الوعد والوعيد والخبر الصادق لله تعالى في الكلام اللفظي المستلزمة للامكان الذاتي في ذلك عند هم مع الجزم والقطع لعدم وقوعها و هذا القدر لا يوجب كفرا ولا عنادا ولا بدعة في الدين ولا

فسادا كيف وقد علمت موافقة كلام العلماء الذين ذكرناهم عليه كما رايته في كلام المواقف و شرحه الذي نقلناه قريبا فالشيخ خليل احمد لم يخرج عن دائرة كلامهم لكن اقول مع هذا نصيحة له ولسائر علماء الهند انه ينبغي لهم عدم الخوض في هذه المسائل الغامضة واحكامها الدقيقة التي لا يفهمها الا الواحد بعد الواحد من فحول العلماء المحققين فضلا عن غيرهم فضلا عن عوام المسلمين لانهم اذا قالوا ان مقدورية مخالفة الوعيد و الخبر الا لهي لله تعالى مستلزمة لا مكان الكذب في الكلام اللفظي المنسوب اليه تعالى بالذات لا بالوقوع و اشاعوا ذلك بين عامة الناس تبادرت اذهانهم الي انهم قائلون بجواز الكذب في كلام الله تعالى فحينئذ يكون شان اولئك العامة مترددا بين الامرين الاول يتلقوا ذلك بالقبول على الوجه الذي فهموه فيقعوا في الكفر والالحاد و الثاني ان لا يتلقوه بالقبول وينكروه غاية الانكار

دیکھ چکا ہے پس شیخ خلیل احمد ان حضرات علماء کے دائرہ سے باہر نہیں ہیں لیکن باوجود اس کے میں ان سے اور نیز تمام علماء سے بطور نصیحت کہتا ہوں کہ سب علماء کو مناسب ہے کہ ان باریک مسائل اور ان دقیق احکام میں خوض نہ کیا کریں جن کو عوام تو کیا سمجھیں گے بڑے علماء میں سے بھی بجز ایک دو اخص الخواص عالم کے دوسرے عالم بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کہ جب وہ کہیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی خبر اور وعید کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے اور واقعی اس سے لازم آیا اس کلام لفظی میں جو اللہ کی طرف منسوب ہے کذب کا امکان بالذات نہ بالوقوع اور اس کو پھیلائیں گے تمام لوگوں میں تو عوام کے ذہن فوراً اسی طرف جائیں گے کہ یہ لوگ کلام خداوندی میں کذب کے جواز کے قائل ہیں پس اس وقت ان عوام کی حالت ان دو امر میں متردد ہوگی کہ یا تو جس طرح ان کی سمجھ میں آیا ہے اسی کو قبول کر کے مان لیں گے پس کفر والحاد میں گر پڑیں گے اور یا یہ کہ اس کو قبول نہ کریں گے اور پوری طرح انکار کریں گے اور اس کے قائل پر طعن و تشنیع کریں گے اور ان کو کفر والحاد کی طرف نسبت کریں گے اور یہ دونوں باتیں دین میں فساد عظیم ہیں پس اس وجہ سے ان پر واجب ہے کہ ان مسائل میں خوض نہ کریں ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہی پیش آجائے تو مجبوری ہے کہ ایسے شخص کو مخاطب بنا کر مطلب سمجھاویں، جو صاحب

ویشنوعوا علی قائله غاية التشنيع وينسبوهم الى الكفر والالحاد و كلا الامرین فساد فی الدین عظیم فلاجل ذلك يجب علیهم عدم الخوض فی هذه المسائل الا عند الاضطرار الشدید مع توجيه الخطاب الى ذی قلب یلقى السمع وهو شهید و قد وفقنا الله بهدایتہ وارشاده لسلوك السبیل التي فیها التخلص من الوقوع فی هذه الخطر العظیم بالوجه الصحيح المستقیم والحمدلله رب العلمین۔

### وقال فی اختتام رسالته

#### الشريفة مانصه

واذا وصل بنا الكلام الى هذا المقام فنقول قولاً عاملاً شاملاً لجميع هذه الرسالة المشتملة على ستة وعشرين جواباً التي قدمها الينا العلامة الفاضل الشيخ خليل احمد للنظر فيها و تأمل ما فيها من الاحكام ان لم نجد فيها قولاً يوجب الكفر و الابتداع ولا ما ينتقد عليه انتقاداً ما الا هذه المواضع الثلاثة التي ذكرناها وليس فيها ما يوجب الكفر و الابتداع ايضاً كما

علمت ذلك من كلامنا فيها ومن المعلوم انه لا يسلم كل عالم الف كتاباً من العثرات في بعض المواضع من كلامه فقد ما قيل من الف فقد استهدف وقال الامام مالك رضى الله تعالى عنه مامنا الا راد و مردود عليه الا صاحب هذا القبر الكريم يعنى قبره صلى الله عليه وسلم وحسبى الله وكفى والحمد رب العلمين۔ ثم جمعها و كتابتها في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول عام الف وثلاثمائة و تسع وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها افضل الصلوة وازكى التحية۔

اور کسی انتقاد کی گنجائش ہو اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کوئی عالم جو کتاب تصنیف کرے اپنی تحریر میں کسی مقام پر لغزش کھا جانے سے سالم نہیں رہ سکتا چنانچہ یہ مثل مشہور ہے قدیم سے کہ جو مولف بناوہ نشانہ بنا اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے دوسرے پر رد نہ کیا ہو یا جس پر رد نہ ہوا ہو، پھر اس بزرگ قبر والے یعنی سیدنا محمد ﷺ کے اور ہم کو اللہ کا فی و وانی ہے اور سب تعریف اللہ کو جو رب ہے تمام عالم کا۔ ختم ہوئی اس رسالہ کی ترتیب و کتابت دوسری ماہ ربیع الاول ۱۳۲۹ھ کو۔

اور فرمایا اپنے رسالہ شریفہ کے آخر میں

جس کی عبارت یہ ہے:

اور جب اس مقام تک تقریر پہنچ چکی تو اب ایک قول عام بیان کرتے ہیں جو اس تمام رسالہ کے ان چھبیس جوابات پر مشتمل ہے جس کو علامہ فاضل شیخ خلیل احمد نے اس میں نظر کرنے اور اس کے احکامات میں غور کرنے کے لیے ہمارے سامنے کیا ہے کہ واقعی ہم نے ایک بات بھی اس میں ایسی نہیں پائی جس سے کفر یا بدعتی ہونا لازم آئے بلکہ ان تین مسائل کے علاوہ جن کو ہم نے ذکر کیا ہے کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں جس پر کوئی باریک بینی

شیخ ممدوح کے اس رسالہ پر جو بہ تمامہا علیحدہ طبع ہو چکا ہے اور اس مختصر رسالہ میں جس کا مقصود اجو بہ مذکورہ پر تقریظ و تنقید کرنے والے اصحاب کی عبارت و مواہیر کا نقل کرنا ہے اس رسالہ کے اول و آخر و وسط تین مقامات لکھ دیئے گئے ہیں۔ مفصلہ ذیل علماء کی مواہیر شہنت ہیں:

صورة ماكتبه على اصل الرسالة حضرة شيخ العلماء الكرام وسند الاصفياء  
العظام محي السنة الغراء وعضد الملة البيضاء رئيس السادة العظام ومقدم  
الفضلاء الفخام جناب الشيخ احمد بن محمد خير الشنقيطي المالكي المدني  
لازالت بحار فيضه زاخرة امين۔

نقل تقریظ جس کو اصل رسالہ اجوبہ پر تحریر فرمایا حضرت شیخ علماء کرام اور سند اصفیاء عظام روشن  
سنت کے زندہ کرنے والے اور شفاف ملت کے بازو سرداران باعظمت کے مقتداء اور جلال  
مآب، صاحبان فضل کے پیشوا جناب شیخ احمد بن محمد خیر شنقینگی مالکی مدنی نے، سدا ان کے فیضان  
کے سمندر موجزن رہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لمستحقه والصلوة والسلام  
على افضل خلقه اما بعد لما اطلعت  
على رسالة الاستاذ المحقق والحبر  
المدقق الشيخ خليل احمد لازال  
مشمولا بتوفيق الملك الصمد  
وملحوظا بعناية الواحد الاحد  
وجدت ما فيها موافقا لمذهب اهل  
السنة كله ولم يبق للتكلم مجال الا  
في مسألة القيام عند ذكر مولده  
الشريف والاحوال التي تعرض  
لذلك والحق كما اشار اليه الشيخ  
بل صرح ببعضه ان المولد الشريف  
ان كان سالما مما يعرض له من

حمد ذات کو جو اس کا مستحق ہے اور درود و سلام  
بہترین مخلوق پر، اس کے بعد واضح ہو کہ میں نے  
صاحب تحقیق استاذ اور صاحب تدقیق علامہ شیخ  
خلیل احمد کے رسالہ کا مطالعہ کیا ہے نیاز شاہنشاہ کی  
توفیق سدا ان کے شامل حال رہے اور بیکتاویگانہ  
خدا کی عنایت ان پر دائم رہے جو کچھ اس میں ہے  
بالکل مذہب اہل سنت کے موافق پایا اور کسی مسئلہ  
میں گفتگو کی گنجائش نہ پائی بجز ذکر مولود شریف  
کے وقت مسئلہ قیام اور ان حالات میں جن سے  
تعرض کیا ہے اور حق وہ ہے جیسا کہ شیخ نے بھی اس  
کی طرف اشارہ کیا بلکہ بعض کی تصریح بھی کر دی  
ہے کہ مولود شریف اگر عارضی نامشروع باتوں  
سے سالم ہو تو وہ فعل مستحب اور شرعاً پسندیدہ ہے

خادم العلم بالمسجد النبوي

محمد زكي  
المدني

محمد السوي  
الختياري

من مشاهير علماء العرب  
خادم العلم الشريف في دمشق الشام و  
خطيب جامع السورجي

خادم العلم والمدني في  
باب السلام

احمد بن المأمون  
الباغيش ۱۲۲۸

محمد توفيق

موسى كاظم  
بن محمد

خادم العلم الشريف بدار  
الصلوة عليه

خادم العلم بالمسجد النبوي

احمد بن محمد خير  
الحاج العباسي

ابن نعمان  
محمد منصور ۱۳۲۶

مصطفى  
احمد  
سيد

الفقيه الفاضل عز شانه  
الشيخ الفاضل بالقرآن  
المدني

المدني بالمسجد النبوي

عبد الله القادري  
محمد بن سوادة  
العربي وليه

يسير عني عنه  
۱۳۲۶

ملا عبد الرحمن

خادم العلم بالمسجد النبوي

خادم الحرم الشريف النبوي

خادم الحرم الشريف النبوي

محمد  
عبد  
النجاد

أحمد  
بساطي

محمد حسن  
سندي

خادم العلم بالمسجد النبوي

الفقيه الفاضل بالمسجد النبوي

خادم الحرم الشريف النبوي

احمد  
ابن احمد  
اسعد

عبد الله  
۱۳۲۸

محمد بن  
العنلاقي

المنكرات فهو امر مستحب محمود شرعا كما هو المعروف عند اكابر العلماء جيلا بعد جيل و قرنا بعد قرن ان لم يسلم من المنكرات كما ذكره الاستاذ انه يقع في الهند مثلا و اما في غير الهند بالنادر وقوعه بل لا نسمع بشيء مما ذكر انه يقع في الهند واقع في غيره فيمنع من جهة معارض له والحاصل ان العلة تدور مع المعلول وجودا و عدما فحيث وجد المنكر لزم ترك الوسيلة اليه وحيث عدم استحباب اظهار ما هو من شعائر المسلمين وفي مسألة السؤال الثاني والعشرين ان من اعتقد قدوم روحه الشريف من عالم الارواح الى عالم الشهادة الخ اما قدوم روحه عليه الصلوة والسلام في بعض الاحيان لبعض الخواص امر غير مستبعد و معتقد هذا القدر لا يعد مخطئا لكونه امرا ممكنا فهو صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف يتصرف في الكون باذن الله تعالى

چنانچہ مدت سے اکابر علماء کے نزدیک معروف ہے اور اگر مولود منكرات سے سالم نہ ہو جیسا کہ استاذ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہند میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے اور ہند کے علاوہ دوسری جگہ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہوگا بلکہ وہ باتیں جن کا ہند میں واقع ہونا بیان کیا گیا ہے دوسری جگہ ہم نے واقع ہوتے بھی نہیں سنا تو اس پیش آ جانے والی وجہ سے ایسی مجلس مولود سے ضرور منع کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وجود اور عدم معلول کا مدار علت پر ہوگا کہ جہاں مولود میں کوئی امر نامشروع پایا جائے گا، وہاں اس شے کا چھوڑنا بھی ضرور ہوگا جو اس نامشروع کا وسیلہ ہے اور جہاں کوئی امر ناجائز نہ ہو وہاں اس ذکر کا جو مسلمانوں کا شعار ہے ظاہر کرنا مستحب ہوگا اور بائیسویں سوال کا یہ مسئلہ کہ جو شخص معتقد ہو جناب رسول اللہ ﷺ کی روح مبارک کے عالم ارواح سے دنیا میں تشریف لانے کا الخ پس خواص میں سے کسی بزرگ کے لیے کسی خاص روح پر فتوح کے تشریف لانے میں تو کچھ استبعاد نہیں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے اور اتنی بات کا عقیدہ رکھنے والا برسر غلطی بھی نہ سمجھا جائے گا کیونکہ حضرت ﷺ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں باذن خداوندی کون میں جو چاہتے ہیں تصرف فرماتے

کیف شاء لكن لا بمعنى كونه صلى الله عليه وسلم مالكا للنفع والضرر فانه لا نافع ولا ضار الا الله تعالى قال تعالى قل لا املك لنفسي نفعا و لا ضرا الا ماشاء الله و اما اعتقاد تجدد الولادة فلا يتصور من ذی عقل تام و اما قول الاستاذ فهو مخطی متشبه بفعل المجوس فكان ينبغي للاستاذ عبارة هو اليق من هذه لكونه حاكما لهم بالاسلام كان يقول فيه بعض شبه مثلاً والله تعالى اعلم وفي مسألة الكلام في الفصل الخامس والعشرين اقول المسئلة الخلاف فيها مشهور وينبغي عدم الخوض مع اهل البدع في مثلها واما الاستاذ فهو ناقل من كلام اهل السنة لا محالة وحيث كان ناقل من كلام اهل السنة باى حال كان على هدى قال في الوسيلة وكل راي لاتباع السلف ادى من المجمع والمختلف فيه فمن يراه لاضلالا الالف الاشياء فيما يراه لا ولا اضلالا وكل ما جمع اهل

ہیں مگر نہ بایں معنی کہ حضرت نفع اور نقصان کے مالک ہیں کیونکہ نفع اور ضرر پہنچانے والا بجز اللہ کے کوئی نہیں چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ کہہ دو اے محمد! میں مالک نہیں اپنے نفس کے لیے بھی نفع کا اور نہ نقصان کا، مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ اب رہا پیدائش کے از سر نو ہونے کا عقیدہ، سو کسی پورے عقل والے سے اس کا احتمال بھی نہیں ہوتا۔ ہاں استاذ کا یہ فرمانا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا خطاوار اور مجوس کے فعل سے مشابہت کرنے والا ہے، سو استاذ کو زیبا تھا کہ کوئی اور عبارت اس سے بہتر ہوتی جو ان پر اسلام کا حکم قائم رکھتی۔ مثلاً یوں فرماتے کہ اس میں کچھ مشابہت ہے واللہ اعلم۔ پچیسویں سوال میں کلام کے مسئلہ کے متعلق میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ میں اختلاف مشہور ہے اور مناسب ہے کہ ایسے مسئلوں میں بدعتیوں کے ساتھ گفتگو اور خوض نہ کیا جائے اور استاذ یقیناً اہل سنت کا کلام نقل کر رہے ہیں اور جب کلام اہل السنہ کے ناقل ہوئے تو بہر حال ہدایت پر ہوئے۔ اسی وسیلہ میں مسطور ہے ہر وہ رائے جو سلف کے اتباع میں ہو، مسئلہ اتفاقیہ میں یا اختلافیہ میں، تو اس رائے کو کون شخص گمراہی کہہ سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں، نہ وہ ضلال ہے اور نہ اضلال، البتہ ہر وہ



السنة على خلافه فكالاسنة يهلك  
 اما يعسل الانسان فيه و ان زينه  
 الشيطان فحيث كان دائرا بين  
 الاشاعرة والماتريدية فهو على ملة  
 الحق قال في الواضح المبين واعلم  
 بان الملة المرضية هي التي عليها  
 الاشعرية. والماتريدية اذ هي التي اتى  
 بها احمد هادي الامة ومن يجد عنها  
 يكن مبتدعا. فنعمر من كان لها متبعا.  
 كتبه خادم العلم بالحرم النبوي  
 احمد بن محمد خير الشنقيطي عفا  
 الله عنه.  
 (احمد ابن محمد الشنقيطي)

مسئلہ جس کے خلاف پر اہل سنت کا اجماع ہو  
 نیزوں کی طرح مہلک ہے اگر انسان اس میں  
 خوض کرے اگرچہ شیطان اس کو آراستہ بنا دے۔  
 پس جب یہ مسئلہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان  
 دائر ہے تو مذہب حق ہوا چنانچہ واضح مبین میں  
 مذکور ہے کہ جان لے اے مخاطب پسندیدہ طریقہ  
 وہی ہے جس پر اشعریہ اور ماتریدیہ یا ماتریدیہ  
 ہوں کیونکہ وہی ہے جس کو راہبر طریقت سیدنا محمد  
 ﷺ لائے اور جو اس سے منحرف ہو وہ بدعتی ہے  
 پس کیا اچھا ہے وہ شخص جو طریقہ مذکور کا تبع ہو لکھا  
 حرم نبوی میں علم کے خادم، احمد بن محمد خیر شنقيطي  
 عفا اللہ عنہ نے۔ (مہر)

خلاصہ التصدیقات لسادة العلماء بمصر و الجامع الازهر  
 صورة ماكتبه حضرة امام الفضلاء الكاملين ومقدم الفقهاء العارفين بسند العلماء  
 المتقين وسيد الحكماء المتقين حجة الله على العلمين ظل الله على المؤمنين نور  
 الاسلام والمسلمين مخزن حكم رب العلمين حضرة الشيخ سليم بشري شيخ

العلماء بالجامع الازهر الشريف متع الله المسلمين بطول بقائه امين!  
 نقل تقریظ کی جو تحریر فرمائی فضلاء کاملین کے امام اور فقہاء کے پیشوا اور علماء متقین میں مستند اور حکماء  
 متقین کے سردار، اہل دنیا پر اللہ کی حجت اور مومنین پر سایہ خداوندی، اسلام اور مسلمانوں کے نور اور  
 رب العالمین کی حکمتوں کے مخزن، حضرت شیخ سلیم بشری جامع ازہر شریف کے شیخ العلماء نے، بہرہ  
 یاب فرمائے اللہ مسلمانوں کو ان کی بقاء طویل فرما کر، آمین!

الحمد لله وحده. و الصلوة والسلام على  
 من لا نبى بعده. اما بعد فقد اطلعت على  
 هذه الرسالة الجليلة فوجدتها مشتملة  
 على العقائد الصحيحة وهي عقائد اهل  
 السنة والجماعة غير ان انكار الوقوف  
 عند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم  
 والتشنيع على فاعل ذلك بتشبيه  
 بالمجوس او بالروافض ليس على  
 ما ينبغي لان كثيرا من الائمة استحسن  
 الوقوف المذكور بقصد الاجلال  
 والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم  
 وذلك امر لا محذور فيه. والله اعلم.

شيخ الجامع الازهر

سب تعریف اللہ یگانہ کے لیے اور درود و سلام اس  
 ذات پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں اس  
 با عظمت رسالہ پر مطلع ہوا۔ پس میں نے اس کو صحیح  
 عقیدوں پر مشتمل پایا اور یہی عقائد ہیں اہل السنۃ  
 والجماعت کے البتہ جناب رسول اللہ ﷺ کے  
 ذکر ولادت کے وقت قیام کا انکار اور اس کے کرنے  
 والے پر مجوس یا روافض سے مشابہت دے کر تشنیع  
 مناسب نہیں معلوم ہوتی کیونکہ بہت ائمہ نے قیام  
 مذکور کو جناب رسول اللہ ﷺ کی جلالت و عظمت  
 کی شان کے ارادہ سے مستحسن سمجھا ہے اور یہ ایسا  
 فعل ہے جس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں۔

سليم بشري شيخ الجامع ازهر۔ (مہر)

لکھا اس کو محمد ابراہیم قایانی نے ازہر میں (مہر)

لکھا اس کو سلیمان عبد نے ازہر میں۔ (مہر)

## خلاصہ التصدیقات لسادة العلماء بدمشق الشام خلاصہ تصادیق علمائے دمشق الشام

صورة ماكتبه التحريير الفاضل والعلامة الكامل شمس العلماء الشاميين وبدر الفضلاء الحنفيين مفخر الفقهاء والمحدثين ملاذ الادباء والمفسرين جامع الفضائل كابرا عن كابر حضرة مولانا السيد محمد ابو الخير الشهير بابن عابدين بن العلامة احمد بن عبدالغنى بن عمر عابدين الحسينى النقشبندى الدمشقى متع الله المسلمين بطول بقائه امين. وهو من احفاد العلامة ابن عابدين صاحب الفتاوى الشامية رحمة الله تعالى.

نقل تقریظ جو تحریر فرمائی، فاضل تحریر علامہ کامل علماء شام کے آفتاب اور فضلاء احناف کے ماہتاب، فقہاء محدثین کے مایہ نحر ادباء و مفسرین کے پشت پناہ جامع فضائل آباء و اجداد سے حضرت مولانا سید محمد ابوالخیر معروف بہ ابن عابدين خلف علامہ احمد بن عبدالغنى ابن عمر عابدين حسینی نقشبندی دمشقی۔ اللہ ان کی درازی عمر سے مسلمانوں کو متمتع فرمائے اور وہ نواسہ ہیں علامہ ابن عابدين کے جو مصنف تھے فتاوی شامی کے، رحمۃ اللہ علیہ!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد اطلعت على المولى الفاضل المكرم المحترم على هذه الرسالة فوجدتها مشتملة على التحقيق الذى هو بالقبول حقيق ولقد اتى مولفها حفظه الله بالعجب العجاب ما هو معتقد اهل السنة والجماعة بلا ارتياب مما يدل على فضله وسعته اطلاعه فلا زال

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعريف الله، اور سلام اس کے برگزیدہ بندوں پر مولوی فاضل مکرم محترم نے یہ رسالہ مجھے دکھایا، پس میں نے اس کو مشتمل پایا اس تحقیق پر جو قبول کرنے کے قابل ہے اور اس کے مؤلف نے، حق تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، عجیب تحریر لکھی جو بلا شک اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ ہے اور جو دلالت کر رہا ہے مصنف کے وسعت معلومات پر۔ پس وہ ہمیشہ مشکلوں کے کھولنے والے اور

كشافا للمشكلات حلالات للمعضلات جزاه الله الجزاء الاوفى فى هذه الدنيا وفى الاخرى حرره على عجل الفقير اليه تعالى خادم العلماء ابو الخير محمد بن العلامة احمد بن عبدالغنى ابن عمر عابدين الحسينى نسباً الدمشقى بلدا عفا الله عنه بمنه وكرمه.

(مہر)

صورة ماكتبه الفاضل الجليل الامام النبيل رئيس الفضلاء وسند الكملاء محقق عصره ومدقق دهره وحيد الزمان صفى الدوران جناب الشيخ مصطفى بن احمد الشطى الحنبلى لازال مغمورا فى رضوان الملك العلام امين! نقل تقریظ جس کو تحریر فرمایا جلیل الشان فاضل سردار فضلاء سند کملاء امام عاقل محقق وقت مدق زمانہ یکتائے زمان برگزیدہ دوران جناب شیخ مصطفیٰ بن احمد شطی حنبلی نے سداشاہ شاہ علام کی رضائیں غرق رہیں۔ آمین!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الاول بلا بداية والآخر بلا نهاية فسبحانه من اله تفضل على هذه الامة المحمدية بفضائل لا تحصى وخصهم بخصائص لا تستقصى سيما وقد جعل منهم علماء ونبلاء فضلاء وانار قلوبهم بنور معرفته وجعل منهم اولياء وورثة الخاتم

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعريف الله كوزيبا ہے جو اول ہے بلا ابتداء کے اور آخر ہے بلا انتہاء کے، پس پاک ہے وہ معبود جس نے فضیلت بخشی اس امت محمدیہ کو بے شمار فضائل سے اور خاص فرمایا لا انتہا خصوصیتوں سے خصوصاً اس نعمت سے ان میں علماء کملاء اور فضلاء اور ان کے دلوں کو روشن فرمایا اپنی معرفت کے نور سے اور بنائے ان میں اولیاء اور خاتم

الرسول عليه الصلوة والسلام ولسائر الانبياء و ان ممن يرجى انه يكون منهم الشيخ حضرة العالم الفاضل و النبيه الاربب الكامل مؤلف هذه الرسالة المشتملة على مسائل شرعية و ابحاث شريفة علمية نشر للرد على فرقة الوهابية في بعض مسائل على مذهب السادة الحنبلية و الرد ان شاء الله في محله فجزا الله تعالى هذا المؤلف عن سعيد خيرا و قابله باحسانه و وفقنا و اياه لما يحب ربنا تعالى و يرضى كما انى او مل منه الدعاء لى و لا و لادى و مشائخى و للمسلمين فى ظهر الغيب و جمعنا و اياه على التقوى بجاه خاتم المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم و على اله و صحبه اجمعين امين يارب العلمين.

كتبه الفقير مصطفى بن احمد الشطلى الحنبلى بد مشق الشام.

صورة ماكتبه صاحب المناقب العلية و المفاخر البهية ذى الراى الصائب و الفهم الثاقب جامع التحقيق و التدقيق معلم الحق و التصديق حضرة الشيخ محمود رشيد العطار لازل فى نعم الملك الغفار التلميذ الرشيد للشيخ بدر الدين المحدث الشامى دامت بر كاته امين!

نقل تقریظ جس کو لکھا بلند منقہوں اور چمکتے مفاخر والے، درست رائے، روشن فہم والے جامع تحقیق و تدقیق، حق اور تصدیق کی تعلیم دینے والے حضرت شیخ محمود رشید عطار نے، سدا بخشش والے شاہنشاہ کی نعمتوں میں رہیں جو شاگرد رشید ہیں شیخ بدر الدین محدث شامی دامت برکاتہ کے۔

الحمد لله الذى اقام لنصرة دينه من اختاره و وفقه وجعل كلامهم سهاما صائبة فى افئدة من زاغ عن الحق وفرقه و الصلوة والسلام على من هو الوسيلة العظمى لنيل كل فضيلة الغاية القصوى لوصول المراتب الجليلة و على اله واصحابه و اتباعه واحزابه لاسيما من ذب عن الدين المحمدى كل جهول و هابى معتدى اما بعد فانى و قفت على هذا المؤلف الجليل فوجدته سفرا حافلا لكل دقيق و جليل من الرد على الفرقة المبتدعة الوهابية اكثر الله تعالى من امثال مؤلفه و اعانه بعناية الربانية كيف لا و الكلام من هذا الموضوع من اهم ما يعنى به فى الوصول و الفروع

سب تعریف اللہ کے لیے جس نے کھڑا کیا اپنے دین کی مدد کے لیے جس کو منتخب فرمایا اور توفیق بخشی اور اس کے کلام کو بنا دیا تیر پہنچنے والے ان کے کلیجوں میں جو حق سے پھرے اور علیحدہ ہوئے اور درود و سلام اس ذات پر جو بڑا وسیلہ ہے ہر فضیلت کے حاصل کرنے کو اور منتہائے مراد ہے مراتب جلیلہ تک پہنچنے کو ان کی اولاد و اصحاب اور تابعین و جماعت پر خصوصاً ان پر جنہوں نے دین محمدی سے ہر جائل و ہابی معتدی کو دفع کیا۔ اما بعد پس میں مطلع ہوا اس تالیف جلیل پر پس پایا اس کو جامع ہر باریک و با عظمت مضمون کا جس میں رد ہے بدعتی و ہابیوں کے گروہ پر، مؤلف جیسے علماء کو حق تعالیٰ زیادہ کرے اور ان کی مدد فرمائے عنایت ربانیہ سے کیوں نہ ہو اس مضمون میں گفتگو کرنا اصول و فروع کے قابل توجہ مسائل میں اہم و ضروری ہے پس اللہ جزاء دے اس کے مؤلف کو

فجزا الله مؤلفه العالم الفاضل و  
الانسان الكامل افضل ماجوزی عامل  
علی عمله وسقاه الله من الرحيق عله  
ونهلہ ونرجومنه الدعاء بحسن  
الخاتمة والتوفيق لما فيه النجاة في  
الاخرة كتبه الفقير الى الله تعالى!

محمود بن  
رشيد  
الطار

لکھا اس کو فقیر محمود بن رشید عطار نے۔

صورة ماكتبه التحرير العلام رئيس الفضلاء الاعلام

حضرة الشيخ محمد البوشي الحموي تغمده الله بكرمه البهي.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين القائل كنتم  
خير امة اخرجت للناس تأمرون  
بالمعروف وتنهون عن المنكر  
ولصلوة والسلام على اشرف خلقه  
وخاصته من انبيائه القائل لا تزال  
طائفة من امتي ظاهرين حتى ياتيهم  
امر الله وهم ظاهرون وعلى اله  
واصحابه القائمين بنصرة الدين في  
الحرب والسلام وسلم تسليمًا كثيرًا  
التي يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد  
اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعريف اللدرب العلمين كوجس نے ارشاد  
فرمایا کہ (اے امت محمدیہ) تم سب سے بہتر  
امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کہ حکم کرتے  
ہوں گی کا اور منع کرتے ہو برائی سے اور درود و سلام  
بہترین مخلوقات اور برگزیدہ پیغمبروں پر جس کا  
ارشاد ہے کہ ہمیشہ ایک گروہ میری امت میں سے  
غالب رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آجائے گی  
اور وہ غالب ہی ہوں گے اور ان کی اولاد و  
اصحاب پر جو دین کی مدد پر قائم رہے جنگ و صلح  
میں اور سلام نازل ہو بکثرت روز قیامت تک۔  
اے ہمارے رب کج نہ فرما ہمارے دلوں کو اس  
کے بعد کہ ہم کو ہدایت دے چکا اور عطا فرما ہم کو

انک انت الوهاب اما بعد فاقول قد  
اطلعت علی هذه الاسئلة و اجوبتها  
للعامة الفاضل والجهيد الكامل  
فريد عصره و وحيدہ الهمام المقام  
شيخي واستاذي و عمدتي وملاذي  
مولانا المولوي الشهير بنخليل احمد  
فوجدتها لما عليه السواد الاعظم من  
اهل السنة والجماعة ولما عليه  
مشائخنا الاعلام والسادة الفحام  
سقى الله روحهم صوب الرحمة  
والغفران فجزى الله ذلك الفاضل  
عن السنة خير الجزاء والسلام قاله  
بفمه ونطقه بلسانه و رقم بسنانه  
الفقير الحقير ذی العجز والتقصير  
محمد البوشي الحموي الازهری  
المدرس و الامام فی الجامع الشهير  
بجامع المدفن بحماة الشام.

صورة ماكتبه الامام الابلج والهمام الاكمل حضرة الشيخ محمد سعيد  
الحموي غطاه الله بلطفه الخفي والجلي.

الحمد لله الواحد فلا يحجد الاحد  
الذي في سرمديته توحد الفرد الذي في  
ربوبيته تفرد و الصلوة والسلام على  
سيدنا محمد الممجد وعلى اله

سب تعريف اللدرب العلمين كوجس کا انکار نہیں ہو سکتا، یکتا  
کہ اپنی بقا میں یگانہ ہے فرد کہ اپنی ربوبیت میں لا  
شریک ہے اور درود و سلام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ  
وسلم پر اور ان کی اولاد و اصحاب پر جنہوں نے جہاد

اپنے پاس سے رحمت بے شک تو بہت زیادہ عطا  
فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ  
میں ان سوالات پر مطلع ہوا جن کو تحریر فرمایا ہے،  
زبردست عالم صاحب فضل اور سردار کامل یکتا  
نے زمانہ اور یگانہ وقت پیشوا بحر مواج میرے شیخ  
اور میرے استاذ اور معتمد اور پشت پناہ مولانا  
مولوی خلیل احمد صاحب نے پس میں نے پایا ان  
کو اس کے موافق جس پر با عظمت گروہ یعنی اہل  
السنة والجماعة ہیں اور اس کے مطابق جس پر  
ہمارے مشائخ اعلام اور سرداران عظام ہیں حق  
تعالیٰ ان کی ارواح کو رحمت و مغفرت کی بارش  
سے سیراب کرے پس اللہ جزا دے ان فاضل  
مؤلف کو سنت کی طرف سے بہتر جزاء۔ والسلام کہا  
اپنے ذہن سے اور ظاہر کیا زبان سے اور لکھا قلم  
سے فقیر حقیر محمد بوشی سند یافتہ جامع ازہر مدرس  
وامام جامع مدفن واقع شہر حماة ملک شام نے۔

واصحابہ الذین جاہد وامع من تمرد اما بعد فانی لما سرحت نظری فی الرسالة المنسوبة للعالم الفاضل والامام الكامل مولانا خلیل احمد وجدتها مطابقة لاعتقادنا واعتقاد مشائخنا فالله یجزیه الجزاء الا وفی ویحشرنا و اياه تحت لواء المصطفی امین.

(محمد سعید)

صورة ماكتبه البارع النبیل الفاضل الجلیل صاحب الکمال

حضرة الشيخ علی بن محمد الدلال الحموی لازال مغمورا بالا فضال

الحمد لله الذی وقانا من الاهواء والبلاغ والضلالات. ووقفنا لاتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات الباهرات وثبتنا علی ما كان عليه هو و اصحابه الکرام (امابعد) فانی لم اعثر فی هذه الرسالة المنسوبة للعلامة الفاضل مولانا خلیل احمد الاعلی ما یوافق اعتقادنا واعتقاد مشائخنا رحمهم الله تعالیٰ من معتقدات اهل السنة والجماعة فجراه الله تعالیٰ خیر الجزاء وحشرنا و اياه معهم فی زمرة سيد الانبياء والحمد لله رب العلمین خادم العلماء علی بن محمد الدلال الحموی عفی عنه.

صورة ماكتبه الادیب الکامل والحبر الفاضل الامام الربانی

حضرة الشيخ محمد ادیب الحورانی متع الله بعلمه القاصی والدانی.

الحمد لله علی ما نعم وعلمنا مالهم نكن نعلم والصلوة والسلام علی افسح من نطق بالضادو افحم بباهر حجته کل من عاند و حاد عن طریقة الرشاد سيدنا محمد الذی جاء بالحق المبین ومحا ببراهينه القاطعة شبه الضالین المضلین وعلی اله و اصحابه المتمسکین بسنة المتادیین باداب شریعته (وبعد) فقد اطلعت علی هذه الاجوبة الظاهرة والعقود الفاخرة فوجدتها مخالفة لمعتقد المتدعین المارفین جزی الله مؤلفه کل خیر واکثر من امثاله و ایدیه فی اقواله و افعاله. امین!

الراجی نیل الربانی محمد ادیب الحورانی المدرس فی جامع

السلطنة بحماة. طبع الخاتم

صورة ماكتبه صاحب الفضل الباهر و العلم الزاهر

حضرة الشيخ عبدالقادر لازال ممد و حامن الاصغر والا کابر.

قد اطلعنا علی رسالة الفاضل الشيخ خلیل احمد المشتملة علی الاسئلة

هم مطلع ہوئے صاحب فضل شیخ مولانا خلیل احمد کے اس رسالہ پر جو مشتمل ہے چند سوالات و

والاجوبة بخصوص العقائد وشد  
الرحال لزيارة سيد المرسلين  
فوجدناها موافقة لعقائدنا اهل السنة  
والجماعة خالية عن الخلل ما عليها  
رد من جهة بذلك فشكر فضل  
الاستاذ المذكور كتبه الفقير اليه تعالى  
عبدالقادر لبابيدي.

صورة ماكتبه العلامة الوحيد الدر الفريد حضرة الشيخ محمد سعيد من الله  
عليه باحسانه المديد وكرمه المجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نعمده و نستعينه و  
نشهد به ونستغفره واشهد ان لا اله الا  
الله وحده لا شريك له. واشهد ان  
سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله  
الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا  
وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى  
اله واصحابه نجوم الاهتداء وائمة  
الافتداء وسلم تسليمًا كثيرًا. اما بعد  
فقد اطلعت على هذه الاجوبة الجليلة  
التي كتبها العالم الفاضل الشيخ  
خليل احمد فرايتها مطابقة لما عليه  
السواد الاعظم من علماء المسلمين  
وائمة الدين من الاعتقاد الحق  
والقول الصدق وهي جديرة بان تنشر

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعريف اللہ کو، ہم اس کی حمد کرتے اور اس  
سے مدد چاہتے اور اس کا دل سے اقرار کرتے اور  
اس سے استغفار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں  
کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ کیلئے لا شریک اور گواہی  
دیتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ  
اور رسول ہیں جن کو اللہ نے بھیجا جہاں بھر کے  
لیے رحمت بنا کر مژدہ سنانے والا ڈرانے والا  
روشن چراغ، اللہ کی رحمت ہوا ان پر اور ان کی اولاد  
واسحاب پر جو ہدایت کے تارے اور اقتداء کے  
امام ہیں اور سلام ہو بکثرت۔ میں مطلع ہوا، ان  
بزرگ جوابات پر جن کو لکھا ہے عالم فاضل شیخ  
خلیل احمد نے پس میں نے ان کو پایا مطابق اس  
اعتقاد برحق اور سچے قول کے جس پر علماء مسلمین و  
پیشوایان دین کا گروہ اعظم ہے اور یہ جوابات اس

بين المسلمين وتعلم لسائر المومنين  
فجزى الله مولفها الخير و وقاه  
الاذى و الضيروها انا قد اجرى  
قلمى بالتصديق عليها ولا حول ولا  
قوة الا بالله العظيم.

۷ اربيع الثانى ۱۳۲۹ھ

كتبه الفقير اليه تعالى محمد سعيد

طبع الخاتم

محمد سعيد

۷ اربيع الثانى ۱۳۲۹ھ (مهر)

(مهر)

صورة ماكتبه الفصيح الشاء والناظم المدرار

حضرة الشيخ محمد سعيد لطفى حنفى غمره الله بفضله العلى.

الحمد لله على الائه واصلى و اسلم  
على خاتم انبيائه وعلى اله واصحابه  
الذين فازوا بنصرتهم و ولائهم اما بعد فقد  
اطلعت على هذه الاجوبة الفاضلة  
فوجدتها مطابقة للحق خالية من كل  
شبهة باطله كيف لا وطرز بردها  
شمس سماء البلاد الهندية ودرتاج  
علماء تلك البقعة البهية فقد احرز  
قصبات السبقة فى مضمار العلم و  
القيت اليه مقاليد الذكاء والفهم عيد  
اعيان هذا الزمان و انسان عين  
الانسان مقتدى اهل الفضل والصلاح  
وسيلة النجاة والنجاح حضرة الحافظ

لائق ہیں کہ ان کو پھیلا دیا جائے تمام مسلمانوں  
میں اور سکھا دیا جائے سارے مومنین کو پس اللہ  
اس کے مؤلف کو جزائے خیر دے اور محفوظ رکھے  
تکلیف و ضرر سے اور لو میں نے اس کی تصدیق پر  
قلم چلا دیا۔

میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اس کے احسانات پر اور  
درود بھیجتا ہوں خاتم الانبیاء پر اور ان کی اولاد  
واسحاب پر جو آپ کی مدد اور محبت سے مالا مال  
ہوئے۔ اما بعد میں مطلع ہوا ان فضیلت والے  
جوابوں پر۔ پس ان کو پایا حق کے مطابق اور ہر  
باطل شبہ سے خالی۔ کیوں نہ ہو جب کہ اس کے  
مولف آسمان ہند کے آفتاب اور اس جانب کے  
علماء کے سر تاج کہ جنہوں نے علم کے میدان میں  
مراتب و سبقت و فضل کو لیا اور ذکا و فہم کی کنجیاں  
ان کے قبضہ میں آئیں۔ بزرگان زمانہ کی عید اور  
ہر انسان کی آنکھ کی تپکی اہل فضل و جلالت کے  
پیشوا اور نجات و کامیابی کے وسیلہ حضرت حافظ  
حاجی مولوی خلیل احمد صاحب ہیں بے نیاز شاہنشاہ

الحاج المولوی خلیل احمد دام بعناية  
الملك الصمد ولا زالت اشعة  
شموسه مشرقة مضيئة وانوار بدوره  
في افق السماء العلم بازغة منيرة.

امين يارب العالمين.

سرحت طرفی فی میا  
الفیت مافیها حقیقا  
لا عزو اذ ابداه ذو القدر  
من صيته قد طاره  
وبحفظ احكام الشريعة  
وهو الحسام الفضل فی  
وهو الامام اللوذعي  
دم بالرعاية يا خليل

ترجمہ: سوال و جواب کے میدانوں پر میں نے نظر ڈالی تو اس کا سب مضمون بالکل صواب اور حق پایا، ایسا ہونا کچھ تعجب نہیں کیونکہ اس کو بلند مرتبہ والے قابل ہیبت شیر نے ظاہر کیا ہے جس کا شہرہ نیک نامی نرم و سخت غرض تمام زمین میں اڑ گیا اور شریعت کے احکام کی حفاظت میں عجیب مضمون بیان فرمایا اور وہ ایک فیصل کن تلوار ہیں اہل شک کی گردنوں میں، اور وہ پیشوائے ذکی ہیں اور ان کا قول گفتگو کا فیصلہ ہے۔ اے خلیل تم محمود بارگاہ ہو کر ہمیشہ بحفاظت قائم رہو۔

وانا العبد الفقير اسير التقصير الراجي  
لطف ربه الجلي و الخفي محمد سعيد  
لطفى الحنفى عفا الله عنه.

طبع الخاتم

صورة ما كتبه الشيخ الاوحد ذو الفضل المجيد  
حضرة فارس بن أحمد امده الله بمنه المخلد.

الحمد لله حمد من اعترف لجنابه  
الاقდس بجميع الكمالات و عرف  
انه تعالى وتنزه عن جميع ما يقوله  
المبتدعة و اهل الضلالات واعتقد  
بان حجتهم داحضة وترهاتهم  
متناقضة و الصلوة والسلام على  
سلطان دوائر الحضرات الربانية  
وسيد سادات المرسلين اولي  
المشاهد القدسية سيدنا و مولانا  
محمد الذي هو محمد دولة  
الموجودات و احمد كتائب  
الكائنات وعلى اله اقمار سموات  
المفاخر واصحابه نجوم المحافل  
والمحاضر الي يوم الدين اما بعد  
فيقول العبد الذي اذا غاب لا يذكر و  
إذا حضر لا يوقر خويدم السنة السنية  
و الفقراء الاحمدية فارس بن احمد  
الشفقة الحموى مولدا و وطنا  
والشافعي مذهبا والرفاعي طريقة  
والمدرس في جامع البحصه الكائن  
بمدينة حماه المحمية اهدى البلاد  
الشامية قد طالعت الرسالة المباركة  
المشتملة على ستة و عشرين جواباً

تمام حمد اللہ کے لیے ہے اس کی حمد جو اس کی بارگاہ  
اقدس کے لیے تمام کمالات کا معترف ہو اور جانتا  
ہو کہ وہ عالی اور منزہ ہے اور تمام ان باتوں سے جو  
کہتے ہیں بدعتی اور اہل ضلال اور معتقد ہو اس  
بات کا کہ ان کی دلیل ضعیف ہے اور ان کی بکواس  
باہم معارض ہے اور درود و سلام ربانی بارگاہوں  
کے دائروں کے بادشاہ اور پاک مجالس والے  
بزرگ پیغمبروں کے سردار سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ  
علیہ وسلم پر جو تمام عالم کی حکومت کے مستودہ اور  
سارے جہان کی مخلوقات کے ممدوح ہیں اور آپ  
صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو آسمان ہائے مفاخر  
کے ماہتاب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے  
صحابہ پر جو محافل و مجالس کے تارے ہیں روز  
قیامت تک، اما بعد کہتا ہے بندہ جو غائب ہو تو نہ  
یاد آئے اور موجود ہو تو عظمت نہ کی جائے روشن  
سنت اور محمدی فقراء کا ادنیٰ خادم فارس ابن  
احمد شفقہ جس کی جائے ولادت و وطن ہما ہے اور  
مذہب شافعی اور مشرب رفاعی اور ملک شام کے  
شہر حماہ کی جامع مسجد بخصہ میں مدرس ہے۔ میں  
اس مبارک رسالہ پر مطلع ہوا جو چھپیں جو ایوں پر  
مشتمل ہے جو عالم کامل زریک فاضل محقق مدقق  
پیشوائے یگانہ مولانا مولوی خلیل احمد صاحب نے  
دیئے ہیں اور جب میں نے ان عمدہ عبارتوں اور

خوشگوار مضامین کو غور سے دیکھا تو ان کو شریعت مطہرہ کے مطابق اور اپنے اگلے پچھلے مشائخ کے عقیدے کے موافق پایا۔ پس اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ہم کو اور ان کو سید المرسلین ﷺ کے زیورِ محشور فرمائے والحمد للہ رب العلمین۔  
کہا اپنے ذہن سے اور لکھا قلم سے فقیر فارس بن شفقہ احمد حموی نے۔

### طبع الخاتم

التي اجاب بها العالم الكامل والجهذ الفاضل المحقق المدقق والمقدام المفرد مولانا المولوى خليل احمد وعند ما تصفحت تلك العبارات الفائقة و تعلقت هاتيك المعانى الرائقة وجدتها للشريعة المطهرة موافقة و لما عليه معتقدنا و معتقد اشياخنا من السلف والخلف مطابقة فجزاه الله تعالى خيرا و حشرنا و اياه تحت لواء سيد المرسلين والحمد لله رب العلمين.  
قاله بقمه و كتبه بقلمه الفقير لرزبه المعترف بذنبه فارس بن احمد الشفقة الحموى.

صورة ما كتبه البحر الجواد قدوة الزها دو العباد

حضرت الشيخ مصطفى الحداد سقاه الله بالرحيق يوم التناد

بسم الله الرحمن الرحيم

سب تعریف اللہ کو جو یکتا ہے کہ اس کی کوئی نظیر اور شبیہ نہیں، بے نیاز ہے کہ اس کے رب ہونے کا اقرار دل اور منہ سے کرتے ہیں، باعظمت ہے کہ اس کی بیعت سے ٹھوڑی اور ماتھے جھکے ہوئے ہیں باقدرت ہے کہ اس کی طاقت سے ہوائیں اور پانی مسخر ہیں، زور آور ہے کہ فلک اعلیٰ اور اس سے بالا بھی اس کے حکم کے مطیع ہیں، یگانہ ہے کہ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الذي عدت له النظائر والاشباه. الصمد الذي اقرت بربوبيته الضمائر والافواه الجليل الذي سجدت لهيبته الاذقان و الجباه القادر الذي جرت خاضعة لقدرته الرياح والامواه المتقدر الذي اطاع امره الفلك الاعلى وما علاه الاحد

جو کچھ ایجاد فرمایا ہے اس کی حکمت اس کی وحدانیت بتا رہی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود نہیں بجز اللہ یگانہ لا شریک کے جس کو منکر منافق نہیں مانتا اور جس سے پاک پروردگار پیدا کرنے والے کی عظمت ظاہر ہو اور گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا و مولانا ہمارے محبوب اور آنکھوں کی ٹھنڈک ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں جو سب سے عمدہ اور پیارا طریقہ دے کر بھیجے گئے اور امین ہیں کہ مخفی حقیقتیں ظاہر فرماتے ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کی اولاد و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے جب تک ان کی چمک ظاہر ہے۔ اما بعد دریں دلا میں اس رسالہ سے آگاہ ہوا جو ان چھبیس سوالات کو شامل ہے جن کے جوابات عالم فاضل شیخ خلیل احمد صاحب نے دیئے ہیں۔ اللہ ہم کو اور ان کو اور تمام مسلمانوں کو ان اعمال کی توفیق بخشے جن کی بدولت ہم دارین میں صاحب نصیب ہوں اور عالم بالا میں ہماری تعریف ہو۔ پس میں نے پایا کہ شیخ ممدوح ان مذکورہ جوابات میں صحیح طریق پر ہیں اور صریح حق کی موافقت کی اور اس کی عبارت سے باطل کو رد کیا اور مضمون سے آنکھوں کی ظلمت رفع کی اور سب تعریف اللہ کو جو درست طریقہ کا راہ نما ہے اور اس کی طرف لوٹنا اور آخر جانا ہے اور رحمت

الذی نطق حکمة بوحدانیتہ فیما ابتدعه و سواہ و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له شهادة یزعم بها الجاحد المنافق و یعظم بها الرب القدوس الخالق و اشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و قرۃ عیوننا ابا القاسم محمدا عبده و رسوله المبعوث باعمد الطريق و حبیبہ و امینہ المکاشف بغیوب الحقائق صلی الله علیه وسلم و علی آله و صحبه وسلم ملاح و میض بارق و بعد فقد و قفت فی هذه الاوانة علی رسالة تتضمن ستة و عشرين سوالا نمق اجوبتها العالم الفاضل الشيخ خليل احمد و فتنی الله و اياه و المسلمین لما به فی الدارین نسعد و فی الملاء به نحمد. فوجدته قد نهج فی اجوبته المذكورة المنهج الصحيح و وافق بها الحق الصریح و رد بمنطوقها المین و جلا بمفهومها الغین عن العین و الحمد لله الهادی الی سبیل الصواب و الیه المرجع و الماب و صلی الله علیه و سیدنا و مولانا محمد عالی القدر العظیم الجاه و علی اله و صحبه و من والاہ.



فرمائے اللہ سیدنا و مولانا محمد ﷺ پر جو عالی قدر  
اور عظیم الجاہ ہیں اور ان کی اولاد و اصحاب اور ان  
کے دوستوں پر۔

لکھنا بندہ ضعیف  
مصطفیٰ حداد محمودی نے

طبع الخاتم

کتبه العبد الضعیف  
الملتجی الی مولاه خادم السنة  
السنية فی مدينة هماہ الراجی من رب  
فی الدنيا التوفیق للقیام علی قدم  
السداد و فی الاخرة کهيئة السوال و  
المراد به الفقیر الیه سبحانه  
المصطفیٰ الحداد عفی عنه.

www.peopleofsunnah.com